

نقدروانی گوشوارہ (Cash Flow Statements)

6

اب تک آپ نے مالیاتی گوشواروں کے بارے میں مطالعہ کیا ہے جو بنیادی طور پر گوشوارہ حالت (ایک مخصوص تاریخ پر کسی کاروبار کی مالیاتی حالت ظاہر کرتا ہے) اور آمدی گوشوارہ (ایک مخصوص مدت کے بعد کسی ادارے کی عملی سرگرمیوں کے نتائج کو ظاہر کرتا ہے) پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک اور تیسرا ہم مالی گوشوارہ بھی ہوتا ہے جو نقدروانی گوشوارے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نقد کے اندر وون بہاؤ اور بیرون روانی ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ نقد کے مراد خاتم ہم قیمت بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ گوشوارہ عموماً کمپنیوں کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے جو مالی اطلاعات کے استعمال کرنے والوں کے ساتھ ایک آلہ کار (اسباب) کے طور پر نقد اور اس کے مرادفات کو جاننے اور ایک کاروباری ادارے کی خلاف سرگرمیوں میں ایک مدت کے دوران کاروبار کے نقد اور ہم قیمت رقمات کو جاننے کے کام آتا ہے۔ یہ باب نقدروانی گوشوارہ سے متعلق ہے جس نے پچھلی دہائی میں مالی اطلاعات کا استعمال کرنے والوں کے لیے عملی افادیت کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل کی ہے۔

دی ائمیٹیٹ ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا (ICAI) کے ذریعے جون 1981 میں جاری کردہ حساب داری میعاد—3 (اے ایمس—3)، جو مالیاتی صورت حال میں تبدیلی، (نقدروانی گوشوارہ) ظاہر کرنے والے، گوشوارے، نقدروانی گوشوارہ کے تیار کرنے اور ان کو پیش کرنے سے متعلق ہے۔ نظر ثانی شدہ اے الیں—3 میں سمجھی زیر فہرست کمپنیوں کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ سالانہ تیار کر سکیں گے۔

مقاصد آموزش

اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ:

- نقدروانی گوشوارہ کے مقاصد اور تیاری گوشوارہ کی وضاحت کر سکیں گے۔
- عمل کاری، اصل کاری اور سرمایہ فراہمی سرگرمیوں کے درمیان موازہ کر سکیں گے۔
- بلا واسطہ طریقہ استعمال کر کے نقدروانی گوشوارہ تیار کر سکیں گے۔
- بالواسطہ طریقہ استعمال کر کے نقدروانی گوشوارہ تیار کر سکیں گے۔

بنیاد پر دوسرے مالیاتی گوشاروں کے ساتھ نقدروانی گوشوارہ تیار کر کے پیش کریں لہذا یہاں یہ بات ہی قابل ذکر ہے کہ نقدروانی گوشوارہ حساب داری عمل میں مفید طلب نہیں رہا ہے لہذا اس باب میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔

نقدروانی گوشوارہ کسی کاروباری ادارے کی نقد، نقد مساوی رقمات اور نقد کے بارے میں تاریخی تبدیلیوں کے سلسلے میں نقد روائی کی عمل کاری، اصل کاری اور سرمایہ کاری سرگرمیوں میں درجہ بندی کرتے ہوئے معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کاروبار ادارہ کو ایک نقدروانی گوشوارہ تیار کرنا چاہیے اور اسے ہر ایک حساب داری مدت میں پیش کیا جانا چاہیے جس میں مالیاتی گوشارے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ نقدروانی تجزیہ کے باب 4 میں بھی مالیاتی تجزیہ تکنیک کے طور پر ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس باب میں اس تکنیک کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور ایک حساب داری مدت کے لیے نقدروانی گوشوارہ کو تیار کرنے کے طریقے کی وضاحت کی گئی ہے۔

6.1 نقدروانی گوشارے کی نوعیت

ایک نقدروانی گوشوارہ کسی کمپنی کی مخصوص مدت میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے نقد کا اندر و بیرون بہاؤ نیز نقد مساوی رقم کو ظاہر کرتا ہے۔ نقدروانی گوشوارہ کا بنیادی مقصد کسی کاروبار کی ایک مخصوص مدت کے دوران مختلف عنوانات جیسے عمل کاری سرگرمیاں، اصل کاری سرگرمیاں اور سرمایہ فراہمی سرگرمیوں میں نقدروانی (اندر و بہاؤ اور بیرون بہاؤ) کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔

یہ اطلاع مالیاتی گوشاروں کا استعمال کرنے والوں کے لیے مفید ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک کاروباری ادارے کی نقد اور نقد مساوی رقم پیدا کرنے کی اہلیت اور اس نقد بہاؤ کو کاروبار کے ذریعے استعمال کی ضرورتوں کی جانچ کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اقتصادی فیصلے جو استعمال کرنے والوں کے ذریعے لیے جاتے ہیں انھیں ایک کاروباری ادارے کے ذریعے نقد یا نقد مساوی رقم کو پیدا کرنے کی اہلیت کی تخصیص کی ضرورت ہوتی ہے۔

6.2 نقدروانی گوشارے کے فوائد

نقدروانی گوشوارہ مندرجہ ذیل فوائد فراہم کرتا ہے:

- ایک نقدروانی گوشوارہ جب دوسرے مالیاتی گوشاروں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایسی اطلاعات فراہم کرتا

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

ہے جو ایک کاروباری ادارے کے خالص اٹاٹوں میں تبدیلی اور اس کے اقتصادی ڈھانچے (بشمل اس کی سیالیت اور مقدرات) کی تشخیص کرنے اور تغیر پذیر مالیت نیز واقعات میں موافق نظر و امنی کی رقومات کو متاثر کرنے کی الہیت جانے میں مدد کرتا ہے۔

- نظر و امنی اطلاع کسی کاروبار کی نظر اور نقد مساوی رقم پیدا کرنے کی الہیت کی تشخیص کرنے میں سود مند ہوتی ہے اور استعمال کرنے والوں کو، موجودہ قیمت کو مستقبل میں مختلف کاروباری اداروں کی نظر و امنی کا مقابل اور تشخیص کے نمونوں کو فروغ دینے کے لائق باتی ہے۔

- یہ مختلف کاروباری اداروں کی عملی کارگزاری اور پورنگ کی موازنہ پذیری کو بڑھاتا ہے کیون کہ ایک ہی لین دین اور واقعات کے لیے مختلف حساب داری عمل کے اثرات کو خارج کرتا ہے۔

- تاریخی نظر و امنی اطلاع اکثر مستقبل کی نظر و امنی کی رقم، مدت اور ایقان کی علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ یہ آئندہ نظر و امنی کی درستگی سے قبل تشخیص کی جائیگی کرنے میں مددگار ہوتی ہے اور نفع مندی نیز خالص نظر و امنی اور تغیر پذیر قیتوں کے اثرات کے درمیان نسبت کی جائیگی کرنے میں معاون ہوتی ہے۔

6.3 نقد اور نقد مساوی رقومات

جبیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نظر و امنی گوشوارہ ایک کاروباری ادارے کی مخصوص مدت کے دوران مختلف سرگرمیوں سے نقد اور نقد مساوی رقوم اندرون بہاؤ اور بیرون روانی کو ظاہر کرتا ہے (اے ایس۔ 3) کے مطابق نقد کے تحت نقد زیر دست اور بینک کے ساتھ مانگ جمع اور نقد مساوی رقوم سے مراد قبیل المدت، بلند نقد (سیالیت) سرمایہ کاری سے ہے جو کہ فوری نقد رقم میں تبدیلی کے طور پر جانے جاتے ہیں اور اپنی تبدیلی قیمت کے خطرہ کے لیے غیر اہم سمجھے جاتے ہیں۔ لہذا نقد مرادفات ایسی سرمایہ کاریوں کے طور پر ظاہر کیے جاتے ہیں جو قبیل المدت نقد کی پابندیوں کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں نہ کہ کسی سرمایہ کاری یا کسی دیگر مقصد کے لیے ایک سرمایہ کاری عموماً نقد مرادفات کی الہیت تجھی حاصل کر پاتی ہے جب اس کی پیشگی کی مدت بہت کم ہوتی ہے یعنی تاریخ حصول سے تین ماہ یا اس سے کم۔ حصص میں سرمایہ کاری کو نقد مرادفات سے تک باہر کھا جاتا ہے جب تک کہ یہ معقول نقد مساوی رقومات میں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی نے ترجیحی حصص اپنی بازاڈا یا گلی تاریخ سے کچھ قبل حاصل کیے بشرطیکہ کمپنی کو ان کی پیشگی پر ادا یا گلی کرنے کی ناکامی کا خطرہ قطعی اہم ہو۔

6.4 نقدروانی (کیش فلوز)

نقدروانی سے مراد غیر نقدمات کے آنے اور جانے کی نقل و حرکت سے ہے۔ کسی غیر نقدم سے نقد کی وصولیابی کو اندر وون بھاؤ (ان فلو) اور ان ہی مرات کے سلسلے میں نقد ادا یا گی کو بیرون روانی (آٹ فلو) کے نام سے موسم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نقد ادا یا گی کے ذریعے مشینری کی خریداری بیرون روانی (آٹ فلو) ہوتی ہے جب کہ مشینری کی فروخت سے حاصل، نقد فروخت نقد کی اندر وون روانی کھلاتی ہے۔ نقدروانی کی دیگر مثالوں میں قرض داروں سے نقد وصولیابی، قرض داروں کو ادا یا گی، ملاز میں کوادا یا گی، منافع کی وصولیابی سود کی ادا یا گیاں وغیرہ شامل ہیں۔

اے ایس۔3 کے مطابق، نقدروانی ان مرات کے درمیان نقل و حرکت کو خارج کرتی ہے جو نقد اور نقدم مساوی رقم کی تشکیل کرتی ہیں کیوں کہ یہ اجزا ایک کاروباری ادارے کے انتظام نقد کا ایک حصہ ہوتے ہیں نہ کہ اس کی عملی، اصل کاری اور سرمایہ فراہمی سرگرمیوں کا انتظام نقد میں نقد مرادفات میں زائد نقد کی سرمایہ کاری شامل ہوتی ہے اس لیے قابل فروخت سیکورٹیز کی خرید یا قیل المدت سرمایہ کاری جو نقد مرادفات کو وجود میں لاتی ہے کو نقدروانی گوشوارہ بناتے وقت دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔

6.5 نقدروانی گوشوارہ تیار کرنے کے لیے سرگرمیوں کی درجہ بندی

آپ جانتے ہیں کہ ایک کاروباری ادارے کی مختلف سرگرمیوں کے نتیجے کے طور پر نقدروانی (اندر وون بھاؤ یا وصولیابیاں اور بیرون روانی یا ادا یا گیاں) ہوتی ہیں جو نقدروانی کا عنوان ہوتا ہے۔ اے ایس۔3 کے مطابق ان سرگرمیوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے (1) عملی یا عمل کاری (2) اصل کاری (3) سرمایہ فراہمی سرگرمیاں تاکہ اٹھیں ان تینوں سرگرمیوں سے پیدا نقدروانی کو الگ الگ ظاہر کیا جاسکے۔ یہ نقدروانی گوشوارہ ایک کاروباری ادارے کی اقتصادی حالت میں ان سرگرمیوں کے اثر کو جانچنے میں مدد کرتا ہے اور ساتھ ہی ان میں نقد اور نقد مرادفات کو جانے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔

6.5.1 عملی سرگرمیوں سے نقد

اے ایس۔3 کے مطابق عملی سرگرمیاں کسی کاروباری ادارے کی بنیادی یا خصوصی سرگرمیوں پر مشتمل ہوتی ہیں مثلاً ایک کمپنی کے لیے ملبوسات بنانا، خام مال کا حصول۔ مصنوعاتی اخراجات کا عائد ہونا، ملبوسات کی فروخت وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ کسی کاروبار کی آمدی کی پیدا کرنے والی اہم اور مخصوص سرگرمیاں ہیں اور دیگر سرگرمیاں وہ ہیں جن میں اصل کاری یا سرمایہ فراہمی شامل نہیں

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

ہے۔ افعال سے موصول رقم کمپنی کی داخلی سطح مقدرت ظاہر کرتی ہے اور عمل کاری سرگرمیوں سے پیدا شدہ نقد روانی کو ایک اہم مظہر تصور کیا جاتا ہے جو کاروباری عملی استعداد کو قائم رکھنے کے لیے مناسب نقد روانی پیدا کرتی ہے۔ منافع کی ادائیگی کرتی ہے، نئی سرمایہ کاری کرتی ہے اور یہ ورنی سرمایہ فراہمی کے آسرے کے بغیر قرضوں کی ادائیگی کرتی ہے نیز تاریخی عمل کاری نقد بہاؤ کے خصوص اجزاء کے بارے میں اطلاع، دوسرے اطلاعات کے ساتھ اتحاد میں آئندہ عملی روانی کی پیش گوئی میں مدد کرتی ہے۔

عمل کاری سرگرمیوں سے نقد روانی بنیادی طور پر کاروباری ادارے کی اہم سرگرمیوں سے اخذ کی جاتی ہے۔ اس لیے عام طور پر لین دین اور دیگر واقعات کا نتیجہ ہوتی ہے جو خالص نفع یا نقصان کے تعین میں شریک ہوتے ہیں۔ عمل کاری سرگرمیوں سے نقد روانی کی مثالیں یہ ہیں:

عمل کاری سرگرمیوں سے اندر ورون روانی نقد

- سامان کی فروخت اور خدمات مہیا کرنے سے نقد وصولیاں۔
- رائٹلی، فیس، کمیشن اور دیگر مالیات سے نقد وصولیاں۔

عمل کاری سرگرمیوں سے نقد بیرون بہاؤ

- مال اور خدمات کے عوض سپلائرز کو نقد ادائیگیاں۔
- ملازمین کو اور ان کی خاطر نقد ادائیگیاں۔
- ایک انشورنس اسٹرپ ایزیز کو پریمیم اور دعوے، سالانہ وظیفے اور دیگر پالیسی فوائد کے لیے نقد ادائیگیاں۔
- انکم ٹکس کے لیے نقد ادائیگیاں یا واپسی جب تک کہ یہ سرمایہ فراہمی اور اصل کاری سرگرمیوں کے ساتھ خصوصی شناخت نہ کی جاسکے۔

عمل کاری روانی نقد کے معاملے میں خالص حالت ظاہر کی جاتی ہے۔

کچھ لین دین جیسے پلانٹ کی کسی ایک مد کی فروخت سے نفع یا نقصان کے حصول میں اچھا آنکھیں ہے، جسے خالص نفع یا نقصان کے تعین میں شامل کیا جاتا ہے۔ تاہم ایسے لین دین سے متعلق نقد روانی سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بعد میں تفصیل کے ساتھ بحث کی جائے گی۔

ایک کاروباری ادارہ کاروباری لین دین یا تجارتی مقاصد کے لیے قرضوں اور سیکورٹیز کو اپنے پاس روکے رکھ سکتا ہے۔ ایسے

معاملے میں وہ مکر فروخت کی غرض سے خصوصی طور پر حاصل شدہ مال نامے کے مانند ہوتے ہیں لہذا سیکورٹیز کے لین دین یا ٹریڈنگ کی خرید فروخت سے پیدا ہونے والی نقدروانی کو عمل کاری سرگرمیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مالیاتی اداروں کے ذریعے تیار کردہ نقدائیوانس (پیشگی) اور قرض وغیرہ کو عموماً عمل کاری یا تعلیمی سرگرمیوں کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کاروباری ادارے کی مخصوص سرگرمیوں سے تعلق رکھتی ہے۔

6.5.2 اصل کاری (سرمایہ کاری) سرگرمیوں سے نقد

اصل کاری سرگرمیاں طویل المدت یا قائم اثاثوں جیسے مشینری، فرنچیز، زمین و عمارت وغیرہ کی خرید فروخت سے متعلق ہوتی ہیں۔ طویل المدت سرمایہ کاری سے متعلق لین دین بھی اصل کاری سرگرمیوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اے ایس۔ 3 کے مطابق، اصل کاری سرگرمیوں میں طویل المدت اثاثوں کے حصولی اور تصفیے اور وہ دیگر سرمایہ کاریاں جو نقد مرادفات میں شامل نہ ہوں، آتے ہیں۔ اصل کاری سرگرمیوں سے نقد بہاؤ کا علاحدہ انکشاف اہم ہے کیونکہ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مستقبل میں آمدی اور نقد روانیوں کو پیدا کرنے کے وسائل میں کس حد تک اخراجات کیے گئے ہیں۔ جن سرمایہ کاری سرگرمیوں سے نقدروانی ظاہر ہوتی ہے ان کی چند مثالیں درج ذیل ہیں:

عمل کاری سرگرمیوں سے نقد بیرونی روانی

- عمل کاری سرگرمیوں سے نقد بیرون بہاؤ
- قائم اثاثوں کے حصول کے لیے نقد ادا یا گی بشرط غیر مرکی، سرمایہ شدہ تحقیق اور ترقیات
- حصہ وارثت یاد و سرے کاروباری اداروں کے قرض دستاویز حاصل کرنے پر نقد ادا یا گی جو نقد مرادفات یا ٹریڈنگ کے مقصد کے لیے رکھے گئے دستاویز کے علاوہ مانے جاتے ہیں۔
- تیسرا پارٹی پیشگی نقد اور قرض دینا (مالیاتی اداروں کے ذریعے پیشگی اور قرض دینے کے علاوہ جہاں پر یہ عملی سرگرمی گردانی جاتی ہے)

عمل کاری سرگرمیوں سے نقد اندر و ان روانی

- قائم اثاثوں کی فروخت سے نقد و صولیابی بشرط غیر مرکی اثاثے
- تیسرا پارٹی کو دے گئے پیشگی اور قرضوں کی مکر ادا یا گی سے حاصل نقد (مالیاتی اداروں کو چھوڑ کر)

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

- دوسرے اداروں کے حصص، وارنٹ یا دستاویزات قرض کی فروخت سے نقد و صولیابی کے علاوہ ان دستاویزات کی حصولیابی جو نقد یا نقد مرادفات یا ٹریڈنگ کے مقصد کے لیے روکے گئے ہیں۔
- پیشگی و قرضوں سے حاصل شدہ نقد سود۔
- دوسرے کاروباری اداروں میں کی گئی سرمایہ کاری سے موصول منافع۔

6.5.3 سرمایہ فراہمی (سرمایہ کاری) سے نقد

جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ سرمایہ کاری سرگرمیوں کا تعلق طویل المدت فنڈیکسی کاروباری ادارے کے سرمائے سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک یوٹی حصص، ڈپچر ز کے اجر سے نقد حاصلات بینکوں سے طویل المدت قرض لینا، بینک قرض کی بازاڈائیگی وغیرہ۔ اے ایس۔۔۔ 3 کے مطابق سرمایہ فراہمی سرگرمیاں وہ ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں مالک کا سرمایہ ایک کمپنی کے معاملے میں (بیشول ترجیحی حصہ سرمایہ) دیگر کسی کاروباری ادارے سے قرض کی ترتیب اور جسامت میں تبدیلی آتی ہے۔ سرمایہ کاری سرگرمیوں کے نقد روانی کے لیے علاحدہ اکشاف اہم ہوتا ہے کیوں کہ فنڈ مہیا کرنے والا کاروباری ادارہ (سرمایہ و قرض دونوں) کے ذریعے مستقبل کے دعووں کی پیش گوئی کرنے میں مفید ہوتے ہیں۔ سرمایہ کاری سرگرمیوں کی مثالیں ہیں:


سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقد اندر ورن روانی

- حصص اور ایسی ہی دیگر مساوی دستاویزات کے اجر سے نقد حاصلات
- ڈپچر ز، قرضوں، بانڈوں اور دیگر قلیل و طویل مدتی قرضوں سے نقد حاصلات

سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقد کی باہر روانی

- ادھاری گئی رقم کی نقد ادا یگی
- قرضوں، پیشگی اور ڈپچر ز پر ادا سود
- ایک یوٹی اور ترجیحی سرمائے پر منافع کی ادا یگی

یہاں یہ بتانا اہم ہے کہ ایک لین میں ایسی نقد روانی بھی شامل ہو سکتی ہے جس کی مختلف طریقوں سے درج بندی کی گئی ہو۔ بطور مثال جب ایک قائم اٹانٹے کے سلسلے میں کسی قحط کا حصول متوzi ادا یگی کی بنیاد پر ہوتا ہے جس میں سودا اور قرض دونوں شامل ہوتے ہیں تو سود کو سرمایہ فراہمی سرگرمیوں کے تحت اور قرض کو اصل کاری سرگرمیوں کے تحت رکھا جاتا ہے۔ تاہم مختلف کاروباری اداروں کے لیے مذکورہ بالا سرگرمی کی درج بندی مختلف طور پر کی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر حصہ کی خریداری حصص کی دلائل کے لیے ایک تعیلی سرگرمی ہے۔ جب کہ دوسرے کاروباری اداروں کے لیے ایک سرمایہ فراہمی سرگرمی ہے۔



تصویر 6.1 نقد اندر و روانی اور نقد بیرونی کی درجہ بندی

6.5.4 چند انفرادی (غیر معمولی) مدد کا حل

غیر معمولی مدد

غیر معمولی مدد یا قاعدہ مظہر ہوتی ہیں مثلاً چوری، زلزلہ یا سیالاب کی وجہ سے نقصان غیر معمولی مدد نویجت کے اقتبار سے غیر متواتر ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے غیر معمولی مدد سے نسلک نقدروانی تعیلی، اصل کاری اور سرمایہ کاری فراہمی سرگرمیوں سے علاحدہ ظاہر کیا جانا چاہیے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ استعمال کرنے والے اس کی نوعیت اور ایک کاروباری ادارے کے موجودہ اور مستقبل نقدروانی پر اثرات کو سمجھنے کے لائق ہوں۔

سودا اور منافع

اگر کوئی سرمایہ فراہمی ادارہ (جس کا اہم کام قرض لینا اور دینا ہے) سودا اور منافع کے طور پر کی جاتی ہے جب کہ اداکیے گئے منافع کو سرمایہ فراہمی کے تحت رکھا جاتا ہے۔ درجہ بندی تعیلی کارگزاری کے طور پر کی جاتی ہے جب کہ اداکیے گئے منافع کو سرمایہ فراہمی کے تحت رکھا جاتا ہے۔ غیر مالیاتی اداروں کے سلسلے میں ایسے ایسے 3 کے مطابق سودا اور منافع کی ادائیگی کی سرمایہ فراہمی سرگرمیوں کے طور پر درجہ بندی کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے جب کہ سودا اور منافع کی وصولیابی اصل کاری سرگرمیوں کے تحت آتی ہیں۔

آمدنی اور منافع پر ٹکیس

ٹکیس، انکم ٹکیس (عام نفع پر ٹکیس) سرمایہ کے نفع پر ٹکیس (سرمایہ پر ٹکیس)، منافع ٹکیس (حصہ داروں کو تقسیم کی گئی منافع کی رقم پر ٹکیس) وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اے ایں۔ ۳ کے مطابق آمدنی پر ٹکیس سے حاصل نقدروانی کو علاحدہ سے دکھایا جائے گا اور اسے تعیینی سرگرمیوں سے حاصل نقدروانی کے درجہ میں رکھا جائے گا جب تک کہ اس کی شناخت سرمایہ فراہمی یا اصل کاری سرگرمیوں کے طور پر نہ ہو جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ

- تعیینی نفع پر ٹکیس کو عمل کاری نقدروانی کے طور پر تقسیم کیا جانا چاہیے۔
- منافع ٹکیس یعنی منافع پر ادا کیے گئے ٹکیس کو ادا شدہ منافع کے ساتھ سرمایہ فراہمی سرگرمیوں میں درجہ بندی کی جانی چاہیے۔
- قائم (مقرہ) اثاثوں کی فروخت پر ادا شدہ اضافہ نقدر ٹکیس (کیپٹل گین ٹکیس) کو سرمایہ فراہمی سرگرمیوں کے زمرے میں رکھا جانا چاہیے۔

غیر نقدیں دین

اے ایں۔ ۳ کے مطابق جن عملی اور سرمایہ فراہمی لین دین کے لیے نقیدی نقد ادفات کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں نقدروانی گوشوارے سے الگ رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے لین دین کی چند مثالیں یہ ہیں۔ اکیوٹی حصہ جاری کر کے مشینری کا حصول یا اکیوٹی حصہ جاری کر کے ڈپٹریز کی بازاڈا گی۔ ایسے لین دین کو مالیاتی گوشواروں میں کسی دوسرا جگہ اس طرح سے ظاہر کیا جانا چاہیے جس سے ان اصل کاری و سرمایہ فراہمی سرگرمیوں کے بارے میں متعلقہ معلومات دستیاب ہو سکے۔ لہذا اجر حصہ کے ذریعے حاصل شدہ اسٹاک کو نقدروانی گوشوارے میں ظاہر نہیں کیا جانا چاہیے۔

ان تین ترتیبوں کے ساتھ نقدروانی گوشوارہ تصویر ۱.۶ میں دکھایا گیا ہے۔

نقدروانی گوشوارہ

(صرف مخصوص عنوانات/سرخیاں)

xxx

(A) کاروباری سرگرمیوں سے نقدروانی

xxx

(B) اصل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی

xxx

(C) سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقدروانی

نقد اور نقد مرادفات میں بیشی (کی) (A+B+C)

+ ابتداء میں نقد اور نقد مرادفات

= آخر میں نقد اور نقد مرادفات

تصویر 1. نقدروانی گوشوارہ — تقسیم کاری نمونہ

اپنی معلومات کی جانچ کیجیے — I

مندرجہ ذیل سرگرمیوں کو تعلیمی، صل کاری سرگرمیوں اور سرمایہ فراہمی اور نقدسرگرمیوں میں تقسیم کیجیے۔

اکیوٹی حصہ سرمایہ اجر سے حاصلات	2	مشینری کی خریداری	1
طویل المدت ادھار سے حاصلات	4	نقد فروخت	3
قرض داروں سے نقد و صولیابی	6	پرانی مشینری کی فروخت سے حاصلات	5
سرمایہ کاری فروخت	8	حاصل شدہ کاروباری (ٹرینڈنگ) کمیشن	7
نقد خریداری	10	تریجیحی حصہ کی بازا را یگی	9
سامکھ (گذول) کی خریداری	12	سرمایہ کاری کی فروخت سے حاصلات	11
اکیوٹی حصہ پر درمیانی منافع کی ادا یگی	14	رسد کاروں کو نقد ادا یگی	13
پیٹنٹ کی فروخت سے حاصلات	16	مزدوری اور تنخواہوں کی ادا یگی	15
طویل المدت ادھار پر سود کی ادا یگی	18	سرمایہ کاری کے طور پر کھے گئے ڈپچر زپر موصول سود	17
مصنوعاتی بالائی / بالواسطہ اخراجات کی ادا یگی	20	دفتر اور انتظامی اخراجات کی ادا یگی	19
سرمایہ کاری کے طور پر کھے گئے حصہ پر موصول منافع	22	سرمایہ کاری کے طور پر کھے گئے حصہ پر موصول منافع	21
اکٹم ٹکس ادا یگی	24	فروخت اور تقسیم اخراجات کی ادا یگی	23
حامی داری (انڈر رائٹنگ) کمیشن کی ادا یگی	26	تریجیحی حصہ پر منافع کی ادا یگی	25
سرمایہ کاری کی خریداری پر دلائی کی ادا یگی	28	کرایہ کی ادا یگی	27
قلیل المدت تجسس (ڈپازٹ)	30	بینک اور ڈرافٹ	29
نقد جمع	32	قابل ادا فروخت (مارکیٹ اینڈل) سیکورٹیز	31
		اکٹم ٹکس واپسی کی موصولیابی	33

6.6 عملی سرگرمیوں سے نقد روانی دریافت کرنا

عملی سرگرمیاں کسی کاروباری ادارے میں آمدی و خرچ کا اہم ذریعہ ہوتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ پہلو تو نہایت زیادہ یچھیدہ بھی ہوتا ہے اور نقد روانی گوشوارہ کی تیاری میں ایک بڑا مشکل مرحلہ تصور کیا جاتا ہے۔ لہذا عملی سرگرمیوں میں نقد روانی کی دریافت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اے ایس۔3 کے مطابق ایک کاروباری ادارے کے عملی سرگرمیوں سے نقد روانی کی رپورٹ کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کا استعمال کرنا چاہیے۔

- بلا واسطہ طریقہ جس میں خام نقد و صولیابی کے اہم درجات اور خام نفاذ ایگیاں ظاہر کی جاتی ہیں۔

یا

- بالواسطہ طریقہ جس میں خالص نفع اور نقصان کی مندرجہ ذیل مناسب تطیق کی جاتی ہے: (1) نقد نو عیت کے بغیر لین دین (2) ماضی یا مستقبل کی عملی نقد و صولیابیوں میں کوئی اتوایا حاصل آمدی (3) اصل کاری یا سرمایہ فراہمی، نقد روانی سے متعلق آمدی و اخراجات کی مدت۔ یہاں پر اس بات کی نشان دہی اہم ہے کہ بالواسطہ طریقے کے تحت ایک کاروباری ادارے کے ابتدائی نکات گوشوارہ آمدی کے مطابق ٹیکس سے قبل نفع یا نقصان اور غیر معمولی مدت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ رقم غیر نقد عملی سرگرمیوں سے نقد روانی کا پتہ چلانے کے لیے ایڈ جسٹ کر دی جاتی ہے۔

اس لیے عملی سرگرمیوں میں نقد روانی کا تعین بالواسطہ یا بلا واسطہ طریقہ کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاسکتا ہے۔ ان طریقوں کے بارے میں ذیل میں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

6.6.1 بلا واسطہ طریقہ

جبیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ بلا واسطہ طریقہ کے تحت نفاذ درون روانی اور نقد بیرون یہاں (جیسے قرض داروں سے موصول نقد، تخواہوں کی ادائیگی وغیرہ) کے اہم عنوانات پر ذہن مرکوز کیا جاتا ہے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نفع نقصان کھاتے میں مدت کو حاصلات کی بنیاد پر درج کیا جاتا ہے۔ لہذا نقد بنیاد میں تبدیل کرتے ہوئے کچھ مخصوص تطیق (ایڈ جسٹمنٹ) کرنی ہوتی ہے جیسے
1 - صارفین سے نقد و صولیابی = فروخت + قرض دار ابتداء میں قابل وصول، قرض دار اور آخر میں قابل وصول بل (ہندیاں)

2۔ رسکاروں کونقدادا یگی = خریداریاں + قرض خواہ اور ابتدائیں قابل ادائیں (ہندیاں)۔ قرض خواہ اور آخر میں قابل ادائیں (ہندیاں)

3۔ خریداریاں = فروخت شدہ مال کی قیمت۔ ابتدائی اسٹاک + اختتامی اسٹاک

4۔ نقد اخراجات = حاصلات بنیاد پر اخراجات۔ ابتدائیں پیش ادائی اخراجات اور اختتام پر غیر معمولی اخراجات + آخر میں پیش ادائی اخراجات اور ابتدائیں غیر معمولی اخراجات

تاہم مندرجہ ذیل مدت پر غور نہیں کیا جاتا۔

1۔ بلا نقد مدت جیسے فرسودگی، حصص پر بٹھ وغیرہ کو منسوب / قلم زد کیا جائے گا۔

2۔ وہ مدت جنہیں اصل کاری اور سرمایہ فراہمی سرگرمیوں میں رکھا گیا ہے جیسے وصول شدہ سود، منافع ادائیگی وغیرہ اے ایس۔ 3 کے مطابق بلا واسطہ طریقے کے تحت خام نقد وصولیاں اور نقدادائیگیوں کے اہم درجات کے بارے میں اطلاع مندرجہ ذیل میں کسی سے فراہم کی جاسکتی ہے۔

- کاروباری ادارے کے حساب داری ریکارڈ سے، یا
- فروخت اور دیگر مدت کی فروخت لاغت نفع نقصان گوشوارہ میں مندرجہ ذیل طور پر تطبیق کر کے
- مال ناموں (ذخیرے)، تعمیلی حصولیاں اور ادائیگیوں کی مدت میں تبدیلی کر کے
- دیگر بلا/غیر نقد مدت سے، اور
- دیگر مدت جس کے لیے اصل کاری اور سرمایہ فراہمی نقدروانی میں نقد متاثر کرتا ہے۔

تصویر 6. بلا واسطہ طریقے کا استعمال کرتے ہوئے عملی سرگرمیوں سے روائی نقدخاک نظاہر کرتی ہے۔

عملی سرگرمیوں سے نقدروانی (بلا واسطہ طریقہ)

عملی سرگرمیوں سے نقدروانی:

صارفین سے نقد وصولیاں

(-) ملازمین اور رسکاروں کونقدادا یگی

= افعال/ اعمال سے پیدا نہیں

xxx

xxx

xxx

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

xxx	(-) اکٹیکس کی ادائیگی
<u>xxx</u>	= غیر معمولی مدت سے قبل نقدروانی
xxx	-/+ عملی معمولی مدت
<u>xxxx</u>	= عملی سرگرمیوں سے خالص نقد

تصویر 6.2 عملی سرگرمیوں سے روانی نقد کا حاکم

مثال 1

مندرجہ ذیل معلومات سے بلا واسطہ طریقے کا استعمال کرتے ہوئے عملی سرگرمیوں سے نقدروانی کا حساب لگائیں۔

نفع اور نقصان کھاتہ 31 مارچ 2011 کے اختتام پر

کریڈٹ

ڈیبٹ

آخر اجالات/نقضانات	فروخت شدہ مال کی لاگت	فروخت	آمدنی/حاصلات	رقم (روپیے)
خام نفع	1,20,000	فروخت		2,20,000
	1,00,000			2,20,000
تبنخواہ	30,000	خام نفع		1,00,000
بیمه پر یکیم	8,000			
فرسودگی	20,000			
اکٹیکس	10,000			
خالص نفع	32,000			
	1,00,000			

اضافی معلومات

کمی اپریل 2010

31 مارچ 2011

روپیے	روپیے	قرض دار
30,000	25,000	
6,000	8,000	قابل وصول ہنزیاں
15,000	17,000	قرض خواہ

			اسٹاک
27,000	22,000		بقایا تجخواہیں
3,000	2,000		پیش ادائی بیمه
5,500	5,000		واجب الادائیم کیس
2,000	3,000		عل
			عملی سرگرمیوں سے نقدروانی
(روپیے)			صارفین سے نقد و صولیابی
2,17,000			رسد کاروں کو نقد ادائیگی
(1,27,000)			ملازم میں کو نقد ادائیگی
29,000			بیمه پر یکیم کی نقد ادائیگی
<u>(8,500)</u>			انعال / اعمال سے پیدا نقد
52,500			اکمیکس ادائیگی
<u>(11,000)</u>			انعال / اعمال سے خالص نقد اندر وطن روانی
<u>41,500</u>			بنیادی اشارے:

-1 صارفین سے موصول نقد کا حساب مندرجہ ذیل طریقے پر لگایا جائے گا:

صارفین سے موصول نقد = فروخت + ابتدائی قرض دار اور قابل وصول ہندیاں - قرض دار اور آخر میں قابل وصول ہندیاں

$$= 25,000 \text{ روپیے} + 8,000 \text{ روپیے} - 30,000 \text{ روپیے} = 6,000 \text{ روپیے}$$

$$= 2,17,000 \text{ روپیے}$$

-2 خریداریاں = فروخت شدہ مال کی لاگت - ابتدائی اسٹاک + اختتامی اسٹاک

$$= 22,000 \text{ روپیے} + 27,000 \text{ روپیے} = 1,20,000 \text{ روپیے}$$

$$= 1,25,000 \text{ روپیے}$$

-3 رسد کاروں کو نقد ادائیگیاں = خریداریاں + قرض خواہ اور ابتدائی میں قابل ادا ہندیاں - قرض خواہ اور آخر میں قابل ادا ہندیاں

$$= 17,000 \text{ روپیے} + 15,000 \text{ روپیے} = 1,25,000 \text{ روپیے}$$

$$= 1,27,000 \text{ روپیے}$$

-4 نقد اخراجات = Accrual اخراجات کی بنیاد پر - ابتدائی میں پیش ادائی اخراجات اور ابتدائی میں بقایا اخراجات

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

$$-5 \quad \text{ملازم میں کونکردا ادائیگی} = 30,000 - 2,000 + 3,000 = 29,000 \text{ روپیے}$$

$$-6 \quad \text{بیس پر یکیم کے لیے نقد ادائیگی} = 8,000 - 5,000 + 5,500 = 8,500 \text{ روپیے}$$

$$-7 \quad \text{اکم کیس ادائیگی} = 10,000 - 3,000 + 2,000 = 11,000 \text{ روپیے}$$

-8 اس بات پر دھیان دینا اہم ہے کہ بہاں کوئی غیر معمولی مہینیں ہے۔

6.6.2 با الواسطہ طریقہ

جیسا کہ پہلے اشارہ دیا جا چکا ہے کہ بالواسطہ طریقہ میں عملی سرگرمیوں سے نقدروانی کی دریافت خالص نفع یا نقصان کی رقم سے شروع ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک کاروباری ادارے کی تمام عملی سرگرمیوں کے اثرات کو اجتماعی شکل دیتا ہے تاہم گوشوارہ آمدنی accrual (نہ کونکردا نہیاد پر) پر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ غیر عملی کاری مرات بھی شامل ہوتے ہیں جیسے سود کی ادائیگی، قائم یا مقررہ اثاثوں کی فروخت پر نفع یا نقصان وغیرہ اور غیر نقدمات (جیسے فرسودگی، ساکھ (گلڈول)، کو قلم زد کرنا وغیرہ) اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ نفع و نقصان کھاتے میں دکھائے گئے خالص نفع کو عملی سرگرمیوں سے نقدروانی میں آنے پر ایڈجسٹ کیا جائے۔ آئیے اس مثال پر پور کریں:

31 مارچ 2007 اختتام سال پر نفع نقصان کھاتہ

کریڈٹ	ڈیبٹ		
رقم (روپیے)	آمدنی / حاصلات	رقم (روپیے)	آخریات / نقصانات
1,00,000	خالص نفع	35,000	تنخواہ میں
2,000	زمین کی فروخت سے نفع	15,000	کرایہ
		10,000	فرسودگی
		12,000	سود کی ادائیگی
		30,000	خالص نفع
1,02,000		1,02,000	

مندرجہ بالا نفع نقصان کھاتہ خالص نفع کی رقم 32,000 روپیے ظاہر کرتا ہے۔ اس کی تطبیق عملی سرگرمیوں سے آنے والی نقد

روانی سے کی جاتی ہے۔ آئیے اب ایک ایک کر کے مختلف مدوں کو دیکھتے ہیں۔

1۔ فرسودگی ایک غیر نقدم ہے لہذا لیے گئے 10,000 روپیے کسی نقدروانی کا نتیجہ نہیں ہیں۔ اس لیے یہ رقم لازمی طور پر خالص نفع میں جوڑی جانی چاہیے۔

2۔ 12,000 روپیے سود کی ادائیگی سرمایہ فراہمی سرگرمی کا یروں بہاؤ ہے۔ لہذا جب عملی سرگرمیوں سے نقدروانی کا حساب لگایا جائے گا تو سود کی یہ رقم سرمایہ فراہمی سرگرمیوں کے عنوان کے تحت ایک یروں بہاؤ کے طور پر ظاہر کی جائے گی۔

3۔ زمین کی فروخت پر نفع اصل کاری سرگرمی سے ایک اندرروانی روانی ہے۔

لہذا عملی سرگرمیوں سے نقدروانی کا حساب لگاتے وقت خالص نفع کی رقم میں سے یہ منہا کی جانی چاہیے۔ مندرجہ بالامثالوں سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ خالص نفع و نقصان کی رقم کے ساتھ مطابقت کس طرح کی جاتی ہے۔ دیگر اہم مطابقت کاروباری اصل میں تبدیلی سے متعلق ہوتی ہیں جو لازمی طور پر (یعنی رواں اثاثوں اور واجبات کی مدت) خالص نفع/نقصان میں تبدیل کی جاتی ہیں اور عملی سرگرمیوں سے نقدروانی میں accrual بنیاد پر مختص ہوتی ہیں۔ اس لیے رواں اثاثوں میں اضافہ اور کی رواں واجبات میں اضافے کو خالص نفع میں سے کم کر دیا جاتا ہے جس سے عملی سرگرمیوں سے خالص نقدروانی کی صحیح رقم آ جاتی ہے۔ حساب داری معیار 3 (اے ایمس۔ 3) کے مطابق بالواسطہ طریقے کے تحت عملی سرگرمیوں سے خالص نقدروانی کا تعین مندرجہ ذیل اثرات سے خالص نفع یا نقصان کی مطابقت کے ذریعے ہوتا ہے:

- غیر نقدمات جیسے فرسودگی، ساکھی قلم زدگی، ذخیرہ سامان (پروویژن) معنوی ٹیکس وغیرہ جو بعد میں جوڑے جاتے ہیں۔
- دیگر تمام مدت جس کے لیے اصل کاری اور سرمایہ فراہمی نقدروانی جن کو نقد متأثر کرتا ہے۔ ان کا علاج ان کی نوعیت پر مختص ہوتا ہے۔ تمام اصل کاری اور سرمایہ فراہمی آمدنی خالص منافع کی رقم میں سے منہا کی جانی ہوتی ہیں جب کہ اس طرح کے اخراجات کو واپس جوڑا جانا ہوتا ہے۔ مثلاً سو درج جو کہ ایک سرمایہ فراہمی نقد یروں بہاؤ کو واپس جوڑا جاتا ہے جب کہ سود کی آمدنی جو ایک سرمایہ فراہمی نقد اندر رون روانی ہے، کو خالص نفع کی رقم میں سے منہا کیا جاتا ہے۔
- رواں اثاثوں اور واجبات میں دوران مدت تبدیلیاں۔ رواں اثاثوں میں اضافہ اور رواں واجبات میں کی کم کیا جاتا ہے جب کہ رواں واجبات میں دوران مدت تبدیلیاں۔ رواں اثاثوں میں اضافہ اور رواں واجبات میں کی کم کیا جاتا ہے جب کہ رواں واجبات میں کی کو گھٹایا جاتا ہے جب کہ رواں واجبات میں اضافہ اور رواں اثاثوں میں کی کو گھٹایا جاتا ہے۔

تصویر 6.3 بالواسطہ طریقہ کے مطابق عملی سرگرمیوں سے نقدروانی کے شمارکا خاکہ ظاہر کرتی ہے۔

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

بلا واسطہ طریقہ وہ معلومات فراہم کرتا ہے جو مستقبل کی نقدروانی کا اندازہ لگانے میں کامد ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی معلومات بالواسطہ طریقے کے تحت دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ تاہم معمولاً کمپنیوں کے ذریعے عملی سرگرمیوں سے خالص نقدروانی پہنچنے کے لیے زیادہ تر بالواسطہ طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے۔

عملی سرگرمیوں سے نقدروانی

(بالواسطہ طریقہ)

xxx	ٹکیس سے قبل خالص نفع/نقصان اور غیر معمولی مرات
xxx	+ غیر نقدموں کے لیے پہلے ہی نفع/نقصان کھاتے میں کٹوتی کی گئی جیسے فرسودگی، ساکھ کی قلم زدگی
xxx	+ غیر عملی مرات جیسے سود کے کھاتے پر نفع/نقصان میں پہلے ہی کٹوتی کی گئی
xxx	- غیر عملی مرات جیسے وصول شدہ منافع، تا اعتمام کی فروخت نفع کھاتوں نفع/نقصان کے ساتھ زائد آمدی کو جوڑنا کاروباری اصل میں تبدیلی سے قبل عمل کا ری نفع
xxx	+ رواں واجبات میں بیشی
xxx	- رواں اثاثوں میں کمی
xxx	- رواں اثاثوں میں بیشی
xxx	- رواں واجبات میں کمی
xxx	ٹکیس اور غیر معمولی مرات سے قبل عملی سرگرمیوں سے نقدروانی
xxx	- انکمپکس کی ادائیگی
xxx	+/- غیر معمولی مرات کے اثرات
xxx	عملی سرگرمیوں سے خالص نقد

تصویر 6.2 عملی سرگرمیوں سے نقدروانی کا خاکہ (بالواسطہ طریقہ)

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ بات قبل توجہ ہے کہ جب عملی سرگرمیوں سے نقدروانی کام کرتی ہے تو اس کا نقطہ آغاز ٹکیس سے قبل خالص منافع اور مافوق الفطرت چیزیں ہوتی ہیں۔ اور خالص منافع جیسے نفع/نقصان کھاتے نہیں ہوتا اور انکمپکس کی ادائیگی آخری چیزوں کی عملی سرگرمیوں سے نقدروانی کا اشارہ کرتی ہے۔

مثال 2

مثال 1 میں دے گئے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے بالواسطہ طریقے سے عملی سرگرمیوں سے نقدروانی کا حساب لگایئے۔

عمل
عمل سرگرمیوں سے نقدروانی

روپیے	ٹکیں اور غیر معمولی مدارت سے قبل خالص نفع (1)
42,000	مطابقت (ایڈج ٹمنٹ) برائے۔
<u>20,000</u>	فرسودگی +
62,000	کاروباری اصل کے تبدیل ہونے سے قبل عملی نفع =
(5,000)	متفرق قرض داروں میں بیش -
+2,000	موصول ہندبوں میں کمی +
(5,000)	مال ناموں میں بیش -
(500)	بیش ادائی (پری پید) یہ میں بیش -
(2,000)	متفرق قرض داروں میں کمی -
<u>+1,000</u>	بقایا تباخ ہوں میں بیش +
52,500	افعال / اعمال سے پیدا شدہ نقد =
<u>(11,000)</u>	اکٹکیں کی ادائیگی -
<u>41,500</u>	عملی سرگرمیوں سے خالص نقد =

اب دیکھیں گے کہ عملی سرگرمیوں سے نقدروانی کی رقم یکساں رہتی ہے یا نہیں خواہ ہم اس کا شمار کرنے کے لیے بالواسطہ یا بالواسطہ طریقے کا استعمال کریں۔

بنیادی اشارے:

ٹکیں اور غیر معمولی مدارت سے قبل خالص نفع کو مندرجہ ذیل طور پر کلاگیا ہے۔

روپیے 32,000	(1) خالص نفع
<u>10,000</u> روپیے	+ نفع اور نقصان کے لیے مہیا کرایا گیا اکٹکیں
<u>42,000</u> روپیے	= خالص نفع ٹکیں اور غیر معمولی مدارت سے قبل

مثال 3

مندرجہ ذیل معلومات کے ذریعے عملی سرگرمیوں سے نقدروانی

31 مارچ 2006 کے اختتام پر نفع نقصان کھاتہ

آخریات/نقصانات	رقم (روپیہ)	آمدنی/حاصلات	رقم (روپیہ)	رقم (روپیہ)
کرایہ		عام نفع	10,000	
تینخواہ		مشینری کی فروخت سے نفع	25,000	
فرسودگی		اکٹیس واپسی	5,000	
آلات کی فروخت سے نقصان			3,000	
ساکھ (گڈول) کی منسوخی			2,000	
اهتمام برائے ٹکیس			8,000	
خاص نفع			2,000	
	55,000		55,000	

اضافی معلومات

2006 مارچ 31 کیم اپ میل 2005

(روپیہ) (روپیہ)

13,000	10,000
2,500	2,000
25,000	21,000
21,000	15,000
22,000	25,000

اهتمام برائے ٹکیس

بقلایہ کرایہ

قرض خواہ

قرض دار

مال نامہ (ذخیرہ)

حل

عملی سرگرمیوں سے نقدروانی

ٹکیس اور غیر معمولی رمادات سے قبل خالص نفع

مطابقت برائے:

10,000

5,000	فرسودگی	+
3,000	آلات کی فروخت پر نقصان	+
2,000	سماں کی منسوخی	+
(2,000)	مشینی کی فروخت پر نفع	-
(3,000)	اکمیکس و اپسی	-
<u>15,000</u>	کاروباری اصل تبدیلی سے قبل عملی نفع	
(6,000)	متفرق قرض داروں میں بیشی (اضافہ)	-
3,000	مال نامہ میں کمی	+
4,000	متفرق قرض داروں میں بیشی (اضافہ)	+
500	باقی اکراے میں اضافہ	+
<u>16,500</u>	اعمال/اعمال سے پیدا نقر	
(5,000)	اکمیکس ادا بیگلی	
3,000	اکمیکس و اپسی	
<u>14,500</u>	عملی سرگرمیوں سے خالص نقد	

بنیادی اشارے:

1۔ ٹیکس اور غیر معمولی مدت سے قبل خالص نفع = 2,000 روپیے + 8,000 روپیے = 10,000 روپیے

2۔ دوران سال ادا کیے گئے اکمیکس کا صحیح پتہ لگا کر اکمیکس کھاتہ تیار کرنے کا مندرجہ ذیل طور پر اہتمام کیا گیا۔

اہتمام برائے ٹیکس کھاتہ

کریٹ		ڈیبٹ	
رقم (روپیے)	J.F.	تفصیلات	رقم (روپیے)
10,000		b/d بسابق باقی	5,000
			نقد

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

8,000	نفع و نقصان	13,000	(دوران سال ادا کیا گیا انکمٹس بقا یارم)
18,000		18,000	بیلنس c/d

مثال 4

چارلس لمیٹر نے اٹاٹوں پر 20,000 روپیے فرسودگی چارج کرنے کے بعد 30,000 روپیے عام محفوظ میں منتقل کرنے کے بعد 1,00,000 روپیے کا منفع کامیاب 7,000 روپیے کی ساکھ (گذول) کو قلم زد کیا اور مشینری کی فروخت پر 3,000 روپیے کا نفع ہوا۔ دستیاب معلومات میں (رووال اٹاٹوں اور رووال واجبات میں تبدیلی کے بعد) قرض داروں نے 6,000 روپیے کا اضافہ ظاہر کیا، جب کہ قرض خواہوں میں 10,000 روپیے کا اضافہ ہوا۔ پیش ادائی اخراجات میں اضافہ 200 روپیے، قابل وصول ہندیوں میں کمی 4,000 روپیے اور بقايا اخراجات میں 2,000 روپیے کی کمی آئی۔ عملی سرگرمیوں سے نقدروانی کا صحیح پتہ لگائیے۔

حل

روپیے	ٹکس سے قبل خالص نفع	
1,00,000		مطابقت برائے غیر نقدار غیر عملی مدت:
20,000	+	فرسودگی
30,000	+	عام محفوظ کی منتقلی
7,000	+	ساکھ قلم زد
(3,000)	-	مشینری کی فروخت پر حاصل (نفع)
<u>1,54,000</u>	کاروباری اصل سے قبل عملی نفع	
(6,000)	-	قرض داروں میں اضافہ
10,000	+	قرض خواہوں میں اضافہ
(200)	-	پیش ادائی اخراجات میں اضافہ
3,000	+	قابل وصول ہندیوں میں کمی
(4,000)	-	قابل ادا ہندیوں میں کمی
(2,000)	-	بقایا اخراجات میں کمی
<u>1,54,800</u>	=	عملی سرگرمیوں سے خالص نقد

کاروباری اصل میں تبدیلیوں کے لیے مطابقت (ایجمنٹ)

فرسودگی +

عام محفوظ کی منتقلی +

ساکھ قلم زد +

مشینری کی فروخت پر حاصل (نفع) -

کاروباری اصل سے قبل عملی نفع

قرض داروں میں اضافہ -

قرض خواہوں میں اضافہ +

پیش ادائی اخراجات میں اضافہ -

قابل وصول ہندیوں میں کمی +

قابل ادا ہندیوں میں کمی -

بقایا اخراجات میں کمی -

عملی سرگرمیوں سے خالص نقد =

آپ اسے خود کبھی

- 1 -
راج لیبٹ کا نفع نقصان کھاتے نچ دیا گیا ہے۔

نفع نقصان کھاتہ اختتام سال 31 مارچ 2007

کریڈٹ

ڈیبٹ

رقم (روپیے)	فروخت:	آمدنی / حاصلات	رقم (روپیے)	آخر اجات / نقصانات
	فروخت:		2,00,000	افتنگی اشاك
8,00,000		نقد فروخت		خریداریاں:
34,00,000		ادھار فروخت	4,00,000	نقد خریداریاں
(2,00,000)		منہما کیا۔ واپسی	17,00,000	ادھار خریداریاں
40,00,000		خالص فروخت	(1,00,000)	منہما کیا۔ واپسی
20,40,000		ٹریڈنگ کمیشن	20,00,000	خالص خریداریاں
60,000	رسد کاروں سے وصول بڑھ		10,20,000	انتظائی اخراجات
			1,20,000	صارفین کو منظور کیا گیا یہ
			1,00,000	ناقابل وصول قرضہ جات (ڈوباقرض)
			3,80,000	فرسودگی
			8,00,000	اہتمام برائے نیکس
1,00,000		اختنامی اشاك	15,80,000	خالص نفع
62,00,000			62,00,000	

اضافی معلومات

روپیے

روپیے

40,00,000

20,00,000

قابل وصول ہٹڈیاں

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

10,00,000	20,00,000	قابل ادا ہٹلیاں
20,000	10,000	بقایا انتظامی اخراجات
10,000	20,000	پیش ادا کی انتظامی اخراجات
40,000	20,000	حاصل ٹریننگ اخراجات
20,000	40,000	پیش ٹریننگ اخراجات
12,00,000	10,00,000	اهتمام برائے ٹکیس
افعال/ اعمال سے نقد کا سچنگ پتہ لگائیے۔ اپنے اشارات صاف ظاہر کیجیے۔		
2- بذریعہ درج ذیل معلومات افعال سے خالص نقد کا حساب لگائیے۔		
(روپیے)		تفصیلات
6,28,000	1,53,000	1 روپیے کے ٹکیس بنو بست کے بعد تعیینی نفع
1,00,000		خنک سالی تصفیہ سے بیمه حاصلات
72,000		روال سال کے لیے تجویر کردہ منافع
1,40,000		فسودگی
30,000		مشینری کی فرودخت پر لفڑان
20,000		سرمایکاری کی فرودخت پر نفع
6,000		سرمایکاری سے موصول نفع
10,000		روال اثاثوں میں تخفیف
		(نقد اور نقد مرادفات کے علاوہ)
1,51,000		روال واجبات میں اضافہ
6,00,000		روال اثاثوں میں اضافہ نقد اور نقد مرادفات کے علاوہ
64,000		روال واجبات میں تخفیف
1,18,000		آنکم ٹکیس ادا ہیگی
3,000		آنکم ٹکیس واپسی موصول

اپنی معلومات کی جائج سمجھیے-II

- 1۔ نیچوں سے گئے دو میں سے ایک تبادل منتخب کیجیے اور مندرجہ ذیل اقوال سے خالی جگہیں پُر کیجیے۔
- (a) اگر دوران سال کمایا گیا نفع 50,000 روپیے ہے اور ابتداء نہیں قرض داروں کی رقم بالترتیب 10,000 روپیے اور 20,000 روپیے ہے تو عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی — روپیے کے برابر ہوگی (40,000 روپیے / 60,000 روپیے)
- (b) اگر دوران سال خالص نفع 50,000 روپیے ہے اور قابل وصول ہنڈریوں کی رقم دوران سال 10,000 کم ہوئی ہے تو عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی — روپیے کے مساوی ہوگی (40,000 روپیے / 60,000 روپیے)
- (c) سال کے آخر میں اخراجات کی پیشگی ادا یکی کی گئی ہے دوران سال حاصل کیے گئے نفع کے ساتھ — جاتا ہے (جوڑا / کم کیا)
- (d) ایک مخصوص سال کے دوران حاصل (accrued) آمدنی میں اضافہ کو خالص نفع میں — جاتا ہے (جوڑا / کم کیا)
- (e) عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی کا حساب لگانے کے لیے تجارتی ساکھی منسوخی دوران سال نفع میں — جاتا ہے۔ (جوڑا / کم کیا)
- (f) عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی کا حساب لگانے کے لیے ملکوں قرض کا اہتمام دوران سال کمائے گئے نفع میں — جاتا ہے۔ (جوڑا / کم کیا)
- 2۔ جب عملی سرگرمیوں سے نقدکا حساب لگایا جاتا ہے تو بتائیے کہ مندرجہ ذیل مرات کو خالص نفع کے ساتھ جوڑا جائے گا کیم کیا جائے گا۔ اگر اس پر غور نہیں کیا جاتا تو ناقابل غور درج کیجیے۔

نتیجہ

مداد

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| (a) | قرض خواہوں کی قدر میں اضافہ |
| (b) | پیشٹ کی قیمت میں اضافہ |
| (c) | پیش ادا شدہ اخراجات میں کی |
| (d) | پیشگی موصول آمدنی میں کی |
| (e) | اسٹاک کی قیمت میں کی |
| (f) | حصہ سرمایہ میں اضافہ |
| (g) | قابل وصول ہنڈریوں کی قیمت میں اضافہ |
| (h) | بقا اخراجات کی رقم میں اضافہ |
| (i) | ڈپچر زکے حصہ میں تبدیلی |
| (j) | قابل ادا ہنڈریوں کی قیمت میں کی |

(k) قرض داروں کی قیمت میں اضافہ
 (l) آمدنی کی رقم میں اضافہ accrued

کبھی کبھی نتو خالص نفع کی رقم خصوصاً دی ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی نفع اور نقصان کھاتہ ایسی حالت میں خالص نفع کی رقم کو دو سال کے تختہ تو ازن میں نفع نقصان کھاتوں کا موازنہ کر کے حساب لگایا جاسکتا ہے۔ دونوں کے درمیان فرق کو اس سال کے لیے نفع مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سال کے دوران میں بندوبست کی رقم کے ساتھ طبق (ایڈجمنٹ) کر کے (دو برسوں کے تختہ تو ازن کا موازنہ کر کے معلوم کیا جاتا ہے) ٹیکس سے قبل خالص نفع کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ (مثال 7 اور 8 دیکھیے)

6.7 اصل کاری اور سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقدروانی کا تعین (دریافت)

اصل کاری اور سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے اندر وون روانی اور بیرون بہاؤ کی مدت کا خاکہ پہلے ہی بنایا جا چکا ہے۔ نقدروانی گوشوارہ تیار کرتے وقت خام نقد و صولیابی، خام نقد ادا یا اور اصل کاری و سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے خالص نقدروانی کی تمام بڑی مدت کو سرمایہ کاری سرگرمیوں سے نقدروانی اور سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقدروانی، کے عنوانات کے تحت الگ الگ ظاہر کیا جانا چاہیے۔ اصل کاری اور سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے خالص نقدروانی کا تعین (دریافت) مثال نمبر 5 اور 6 میں ظاہر کی گئی ہے۔

مثال 5

ویل پرنٹ لمیٹڈ نے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرائی ہیں۔

(روپیے)

50,000

کیم اپریل 2010 کو مشینری

60,000

31 مارچ 2011 کو مشینری

15,000

کیم اپریل 2010 کو مجمع فرسودگی

25,000

31 مارچ 2011 کو مجمع فرسودگی

دوران سال ایک مشین جس کی قیمت 25,000 روپیے تھی اور جس پر مجمع فرسودگی 15,000 روپیے تھی 13,000 روپیے میں فروخت ہوئی۔

مندرجہ بالا معلومات کی بنیاد پر اصل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی کا حساب لگائیں۔

حل

اصل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی

روپیے

13,000

(35,000)

22,000

مشینی فروخت

مشینی کی خریداری

بنیادی اشارے:

مشین کا کھانہ

کریٹ

ڈیبٹ

تüm (روپے)	J.F.	تفصیلات	تüm (روپے)	J.F.	تفصیلات
13,000		نقد (مشین کی فروخت سے حاصلات)	50,000		b/d بر سابق باقی
15,000		مجمع فرسودگی	3,000		نفع نقصان
60,000		c/d باقی نیچے لاٹی گئی	35,000		(مشین کی فروخت پر نفع) نقد
88,000			88,000		باقی رقم - نئی مشین خریدی گئی

مجمع فرسودگی کھانہ

کریٹ

ڈیبٹ

تüm (روپے)	J.F.	تفصیلات	تüm (روپے)	J.F.	تفصیلات
25,000		b/d بر سابق باقی	15,000		مشینی
5,000		نفع نقصان (دوران سال فرسودگی)	15,000		باقی آگے لے جائی گئی c/d
30,000			30,000		

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

مثال 6

مندرجہ ذیل معلومات کے ذریعے سرمایہ فراہمی سے نقدروانی کا حساب لگائیے۔

(روپے)	(روپے)	طويل المدت قرض
2,50,000	2,00,000	دوران سال کمپنی نے 1,00,000 روپے کا قرض ادا کیا

حل

(روپے)	سرمایہ کاری سرگرمیوں سے نقدروانی
1,50,000	طويل المدت قرضوں سے حاصلات
<u>(1,00,000)</u>	طويل المدت قرضوں کی ادائیگی
50,000	سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے خالص نقد اندر ورن روانی

نبیادی اشارے:

لمبارط لمبا کھاتہ

کریٹٹ

ڈبیٹ

تفصیلات	تفصیلات
رقم (روپے)	رقم (روپے)
b/d بر سابق باقی	1,00,000 نقد (قرض ادائیگی)
نقد (نیا قرض) baqi aage le jaai ghi c/d	2,50,000 <u>3,50,000</u>
<u>3,50,000</u>	

آپ اسے خود کچیے

1 - درج ذیل تفصیلات کے ذریعے سرمایہ کاری سرگرمیوں سے نقدروانی کا حساب لگائیں:

خرید (روپے)	فروخت (روپے)	پلانٹ
4,40,000	50,000	سرمایہ کاری
1,80,000	1,00,000	

2011	2010	
9,00,000	5,00,000	مشین تحریری قیمت پر
4,50,000	3,00,000	مجموع فرسودگی
35,00,000	28,00,000	اکیوٹی حصہ سرمایہ
7,50,000	12,50,000	بینک قرض

2,00,000 روپیے کی قیمت والی مشین کو 1,50,000 روپیے کے لفڑ پر فروخت کیا۔ 2006 کے دوران مشین پر عائد فرسودگی میں 2,00,000 روپیے کی تھی۔

6.8 نقدروانی گوشوارہ تیار کرنا

جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا کہ نقدروانی گوشوارہ کاروباری ادارے کی حساب داری مدت کے دوران نقد اور نقد مرادفات کی حالت میں تبدیلیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ وہ سرگرمیاں جو تبدیلی لانے میں شرکیک ہوتی ہیں انھیں عمل کاری، اصل کاری اور سرمایہ فراہمی سرگرمیوں کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حسابی مدت کے دوران یہی سرگرمیوں سے خالص نقدروانی (یا استعمال) کا حساب لگانے کے طریقوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور تصویر 6.1 میں نقدروانی گوشوارہ کا ایک مختصر خاکہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ تاہم نقدروانی گوشوارہ تیار کرتے وقت اندر و ان روانی اور بیرون بہاؤ کی تمام تفصیلات شامل خالص نقدروانی (یا استعمال) کا شمار جیسا کہ تصویر 6.1 میں ظاہر کیا گیا ہے کہ نقد اور نقد مرادفات میں کمی / بیشی کی صورت میں کی جاتی ہے جس میں ابتدائی نقد اور نقد مرادفات کو جوڑا جاتا ہے۔ لہذا اس طرح نقد اور نقد مرادفات دریافت کیے جاتے ہیں۔ یہ دریافت کی گئی رقم تنخیۃ توازن میں دے گئے کل نقدی دست نقدی بینک (اوورڈرافٹ) اور نقد مرادفات (اگر کوئی ہے تو) کے مساوی ہوگی۔ دیکھیے مثال 7 سے 10 تک۔

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

یہاں پر ایک دوسرے نکتہ پر بھی دھیان دے جانے کی ضرورت ہے کہ جب عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی جس کو بالواسطہ طریقے کے ذریعے دریافت کی جاتی ہے اور اس کو ویسے ہی نقدروانی گوشوارے میں ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ گوشوارہ خود ہی بالواسطہ طریقہ نقدروانی گوشوارہ کھلاتا ہے۔ لہذا مثال 7، 8 اور 9 میں تیار کیے گئے نقدروانی گوشوارے اسی زمرے کے تحت آتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی اگر نقدروانی گوشوارہ کی تیاری کے دوران جب عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی کو بلاواسطہ طریقے سے کھلاتا ہے تو اسے ’بلاواسطہ طریقہ نقدروانی گوشوارہ‘ کہا جائے گا۔ مثال 10 دونوں طرح کے نقدروانی گوشوارے کو ظاہر کرتی ہے۔ حالانکہ جب تک یہ ظاہر طور پر نہیں بتایا جاتا کہ نقدروانی گوشوارہ کس طریقے کے استعمال سے نکالا گیا ہے تو تک بہت ممکن ہو سکتا ہے کہ نقدروانی گوشوارہ بالواسطہ طریقے سے تیار کیا جاسکتا ہے جیسا کہ زیادہ تر کپنیاں اسے ہی استعمال میں لاتی ہیں۔ اس باب کے اختتام پر گریسم انڈسٹریز، بوکیل فیول سسٹم اور اسٹرالائٹ آپلیکل کمپنی کے نقدروانی گوشوارے دے گئے ہیں۔

مثال 7

مندرجہ ذیل معلومات کے ذریعے پاپونیر لمیٹڈ کے لیے نقدروانی گوشوارہ تیار کیجیے۔

پاپونیر لمیٹڈ کا 31 مارچ 2011 کو تختہ توازن

واجبات	2010 مارچ 31	2011 مارچ 31	اثاثہ جات	2010 مارچ 31	2011 مارچ 31
اکیوٹی حصہ	95,000	1,00,000	پیٹنٹ	5,00,000	7,00,000
نقش اور نقسان	2,30,000	2,00,000	آلات	2,00,000	3,50,000
بینک قرض	2,70,000	3,00,000	فرنچر	1,00,000	50,000
تجویز کردہ منافع	1,00,000	—	سرماہی کاری	50,000	70,000
اہتمام برائے نیکس	1,20,000	80,000	قرض دار	30,000	50,000
قرض خواہ	1,30,000	50,000	اسٹور	50,000	45,000
بقایا کرایہ	27,000	5,000	نقد	5,000	7,000
	3,00,000	2,00,000	بینک		
	12,72,000	9,35,000		12,72,000	9,35,000

دوران سال 80,000 روپیے کی قیمت کے آلات خریدے گے۔ آلات کی فرودخت پر نقسان کی رقم 5,000 روپیے ہے۔ آلات

اور فرنچر کے لیے 15,000 روپیے اور 00 3,000 روپیے فرسودگی کے لیے مہیا کرائے گئے۔

حل

نقدروانی گوشوارہ

روپیے

	عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی لکیں اور غیر معمولی مدار سے قبل خاص نفع اہتمام برائے	1
2,00,000		
15,000	آلات پر فرسودگی	
30,000	فرتیچر پر فرسودگی	
5,000	پیٹنٹ منسوخی (قلم زدگی)	
70,000	تجویز کردہ منافع	
<u>5,000</u>	آلات کی فروخت سے نقصان	
3,25,000	روال سرمائے میں تبدیلی سے قبل تعمیلی نفع	
(5,000)	- قرض خواہوں میں کمی	
2,000	+ بقا یا کرائے میں اضافہ	
(40,000)	- قرض داروں میں اضافہ	
(80,000)	- اشیا میں اضافہ	
<u>2,02,000</u>		
<u>(30,000)</u>	(-) لکیں ادا بیگی	
1,72,000	عملی سرگرمیوں سے نقد اندر ورن روانی اصل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی:	A
30,000	آلات کی فروخت سے حاصلات نئے آلات کی خرید	II
(80,000)		

400

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

(1,00,000)	سرمایہ کاری کی خرید	
(1,50,000)	اصل کاری سرگرمیوں میں استعمال نقد	B
	سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقد روانی:	III
2,00,000	اکیوٹی حصہ سرمائی کا اجرا	
(50,000)	بینک قرض کی ادائیگی	
(50,000)	منافع کی ادائیگی	
<u>1,00,000</u>	سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقد اندر ورن روانی	C
1,22,000	نقد اور نقد مرادفات میں خالص اضافہ (A+B+C)	
<u>2,05,000</u>	+ابتدائیں نقد اور نقد مرادفات	
<u>3,27,000</u>	آخر میں نقد اور نقد مرادفات	
	نبیادی اشارے:	
		(1)

آلات کھاتہ

کریڈٹ	
تفصیلات	
فرسودگی (باقی رقم)	
15,000	2,00,000
30,000	80,000
5,000	
2,30,000	
2,80,000	2,80,000
برسابق باقی b/d	
نقد	

-2 دوران سال پیٹنٹ 5,000 روپیے (یعنی 1,00,000 روپیے - 95,000 روپیے) قلم زد ہوئے اور فریچر پر فرسودگی 30,000 روپیے 3,00,000 روپیے - 2,70,000 روپیے) ہے۔

نقدروانی گوشوارہ

401

-3 یہ تصور کر لیا گیا کہ 2003-04 میں 5,000 روپیے منافع اور ٹکس کے 30,000 روپیے تھے جو 2004-2005 کے دوران ادا کیا گیا۔ اسی وجہ سے دوران سال مجوزہ منافع اور ٹکس کا اہتمام بالترتیب 70,000 روپیے اور 50,000 روپیے ہوتا ہے۔

روپیے			
3,50,000		آخر میں نفع نقصان	-4
<u>2,00,000</u>		(-) ابتداء میں نفع نقصان	
1,50,000		دوران سال خالص نفع	-5
<u>50,000</u>		+ دوران سال اہتمام ٹکس	
<u>2,00,000</u>		ٹکس اور غیر معمولی مادت سے قبل خالص نفع	

مثال 8

مندرجہ ذیل معلومات سے زیرِ کوس لمیڈ کے لیے نقدروانی گوشوارہ تیار کیجیے۔

ما رچ 31 کو زیرِ کوس لمیڈ کا تختہ توازن

واجبات 2012 مارچ 31	2011 مارچ 31	اٹا شجات	2012 مارچ 31	2011 مارچ 31	واجبات 2012 مارچ 31
1,80,000	2,00,000	کاروباری ساکھ (گذول)	15,00,000	10,00,000	اکیوٹی حصہ
6,50,000	8,00,000	زمین و عمارت	7,50,000	6,00,000	نفع اور نقصان
3,60,000	4,00,000	کارخانہ و مشینری	—	2,00,000	ڈپچر ز
6,00,000	—	سرمایہ کاریاں	1,00,000	—	بینک قرض
2,00,000	1,50,000	قرض دار	95,000	80,000	نفع برائے ٹکس
1,80,000	1,00,000	اٹاک	70,000	60,000	قرض خواہ
70,000	50,000	نقد	30,000	50,000	
3,05,000	2,90,000	بینک			
25,45,000	19,90,000		25,45,000	19,90,000	

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

دوران سال 1,50,000 روپیے کے مجوزہ منافع کی ادائیگی کی گئی۔ انکم لیکس ادا کیا گیا جس میں 15,000 روپیے منافع لیکس کی رقم شامل تھی۔ اس کے علاوہ دوران سال 1,50,000 روپیے کی زمین و عمارت کو 10% نفع سے فروخت کیا گیا۔ پلانٹ اور مشینری پر شرح فرسودگی 10% ہے۔

حل

نقد روانی گوشوارہ

(روپیے)

2,45,000

I عمل کاری سرگرمیوں سے نقد روانی

لیکس اور غیر معمولی مادت سے قبل خالص نفع

تطبق ہے۔

40,000

+ فرسودگی

20,000

+ کاروباری ساکھ (گذول) کی منسوخی

1,50,000

+ مجوزہ منافع

(15,000)

- زمین کی فروخت نفع

4,40,000

= رواں سرماکے میں تبدیلی سے قبل تعییلی نفع

10,000

+ قرض خواہوں میں اضافہ

(20,000)

- قابل ادائیگیوں میں کمی

(50,000)

- قرض داروں میں اضافہ

(80,000)

- اشاک میں اضافہ

3,00,000

= عمل کاریوں (آپریشنز) سے پیدا نہد

(65,000)

- انکم لیکس ادا یگی (1)

2,35,000

- مہم سے نقد اندر روانی

A

II اصل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی

1,65,000	زمین و عمارت کی فروخت سے حاصلات
<u>60,000</u>	سرمایہ کاری کی خرید

B اصل کاری سرگرمیوں میں استعمال نقد
III سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقدروانی

5,00,000	اکیوٹھ حصہ سرمایہ کے اجر سے حاصلات
(2,00,000)	ڈپچر بازاڈا ایگل
1,00,000	بینک قرض سے حاصلات
(1,50,000)	منافع کی ادائیگی
<u>(15,000)</u>	منافع ٹکس کی ادائیگی
2,35,000	C سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقدروانی
35,000	نقد اور نقد مرادفات میں خالص اشانف (A+B+C)
<u>3,40,000</u>	+ ابتدائیں نقد اور نقد مرادفات
<u>3,75,000</u>	آخر میں نقد اور نقد مرادفات

بنیادی اشارے:

- (1) دوران سال کل انکم ٹکس ادائیگی
- (-) منافع ٹکس کی ادائیگی (دیا گیا)
- (+) ادائیگی انکم ٹکس برائے عمل کاری سرگرمیاں
- (2) ٹکس اور منافع کے بعد دوران سال کمایا گیا خالص نفع =

$$7,50,000 - 60,00,000 = 1,50,000 \text{ روپیے}$$

(3) ٹکس سے قبل خالص نفع

$$1,50,000 + اہتمام برائے ٹکس$$

$$1,50,000 + 95,000 = 245,000 \text{ روپیے} \quad (\text{اہتمام برائے ٹکس کھاتہ دیکھیے})$$

$$2,45,000 \text{ روپیے}$$

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

اکیوٹی حصہ سرما یہ کھاتہ

کریڈٹ

ڈیبٹ

تفصیلات	رقم (روپیے)	J.F.	تفصیلات	رقم (روپیے)	J.F.
بر سابق باقی b/d			باقی نچے لائی گئی c/d		
نقد (نیا سرما یہ بڑھایا)					
	15,00,000			15,00,000	

ڈنپر کھاتہ

کریڈٹ

ڈیبٹ

تفصیلات	رقم (روپیے)	J.F.	تفصیلات	رقم (روپیے)	J.F.
بر سابق باقی b/d			نقد (باز ادا یگی)		
	20,000			20,000	

بینک کھاتہ

کریڈٹ

ڈیبٹ

تفصیلات	رقم (روپیے)	J.F.	تفصیلات	رقم (روپیے)	J.F.
نقد			باقی نچے لائی گئی c/d		
	1,00,000			1,00,000	

اهتمام برائے ٹکس کھاتہ

کریڈٹ

ڈیبٹ

تفصیلات	رقم (روپیے)	J.F.	تفصیلات	رقم (روپیے)	J.F.
بر سابق باقی b/d			نقد (ٹکس کی ادا یگی جس میں منافع کے 15,000 روپیے شامل ہیں)	80,000	

95,000	نفع و نقصان (دوران سال کے لئے اہتمام)	95,000	باقی نیچے لاٹی گئی c/d
1,75,000		1,75,000	

زمین و عمارت کھاتہ

کریڈٹ	تفصیلات			ڈیبٹ
رقم (روپے)	J.F.	نقد	رقم (روپے)	J.F.
1,65,000		نقد	8,00,000	بر سابق باقی
6,50,000		باقی نیچے لاٹی گئی c/d	15,000	نفع و نقصان (فروخت پر نفع)
8,15,000			8,15,000	

محوزہ منافع (ڈیویڈنڈ) کھاتہ

کریڈٹ	تفصیلات			ڈیبٹ
رقم (روپے)	J.F.	نفع و نقصان	رقم (روپے)	J.F.
1,50,000		نفع و نقصان	1,50,000	نقد
1,50,000			1,50,000	

پلانٹ اور مشینری کھاتہ

کریڈٹ	تفصیلات			ڈیبٹ
رقم (روپے)	J.F.	فرسودگی	رقم (روپے)	J.F.
40,000		فرسودگی	4,00,000	بر سابق باقی (b/d)
3,60,000				
4,00,000			4,00,000	

مثال 9

اوسمی اگر مذکور میڈیم سے متعلق مندرجہ ذیل تفصیلات کے ذریعے اختتام سال 31 مارچ 2011 پر نقدروانی گوشوارہ تیار کیجیے۔

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

31.03.10	31.03.11	تفصیلات
(روپیے لاکھ میں)	(روپیے لاکھ میں)	
		<u>فندوں کا ماحصلہ</u>
1,400	1,300	سرمایہ
4,000	4,700	محفوظات اور فاضلات
<u>5,400</u>	<u>6,000</u>	کل میزان
		فندوں کا استعمال
		قائم اثاثے
3,400	3,600	خام بلاک
<u>(1,000)</u>	<u>(1,200)</u>	(-) فرسودگی
2,400	2,400	خاص بلاک
200	300	سرمایہ کاری
		روابط اثاثے
1,300	1,200	- فہرست مال (ذخیرہ)
900	800	- متفرق قرض دار
800	1,200	- نقد اور بینک بیلنس
800	800	- قرض اور پیشگیاں
		کل
		منہا کیا: روابط واجبات
400	500	- کاروباری قرض خواہ
600	200	- قلیل المدت قرض
<u>(1,000)</u>	<u>(700)</u>	کل
<u>2,800</u>	<u>3,300</u>	خاص روابط اثاثے
<u>5,400</u>	<u>6,000</u>	کل میزان

اختتام 31 مارچ 2011 کو آمدنی کا گوشوارہ

(روپیے لاکھوں میں)

فروخت	2,800
دیگر آمدنی (منافع آمدنی)	<u>1,000</u>
(-) اخراجات	3,800
مزدوری لگست	(600)
سوداکی ادائیگی	(200)
فرسودگی	<u>(200)</u>
ٹکس سے قبل نفع	2,800
(-) ٹکس ادائیگی	(1,000)
(-) زلزلہ کی وجہ سے نقصان	<u>(1,100)</u>
خالص نفع	700

یہ تادیا گیا ہے کہ کمپنی نے 2006 کے دوران کوئی منافع ادائیگی کیا ہے۔ قائم اثاثوں میں سے 1,000 روپیے کی قیمت کی زمین پر کوئی بھی مجموع فرسودگی نہیں ہے اور اسے بغیر نفع و نقصان کے فروخت کیا گیا۔

حل

نقدروانی گوشوارہ

عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی	2,800
ٹکس اور غیر معمولی مرات سے قبل خالص نفع (1)	200
تطبیق برائے:	
+ سودا ادائیگی	200
+ فرسودگی	200

روال سرمائے میں تبدیلی سے قبل قابلی نفع
تطبیق برائے:

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

100	مال نامہ (ذخیرہ) میں کمی	+
100	متفرق قرض داروں میں کمی	+
100	متفرق قرض داروں میں اضافہ	+
(400)	قیل المدت قرضوں میں کمی	-

3,100	عمل کاری سے پیدا اندہ
(1,000)	اکم بکس ادا یگی (-)
(1,100)	زیارت کی وجہ سے نقصان (-)

1,000	عمل کاری سرگرمیوں سے خالص نقد
	اصل کاری سرگرمیوں سے نقدر وابی
1,000	زمین کی فروخت (2)
(1,200)	قائم اثاثوں کی خریداری (2)
(100)	سرمایہ کاری کی فروخت

(300)	خالص نقد
(200)	سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقدر وابی
(100)	سود کی ادا یگی
(300)	سرمایہ کی بازا رادا یگی

400	سرمایہ فراہمی سرگرمیوں میں استعمال خالص نقد
	دوران سال نقد اور نقد مرادفات میں خالص اضافہ (A+B+C)

800	ابتدا سال میں نقد اور نقد مرادفات	+
1,200	آخر میں نقد اور نقد مرادفات	=

بنیادی اشارے:

$$\text{ٹکس اور غیر معمولی مددات سے قبل خالص نفع} = 1,000 + 1,100 + 700 \quad (1)$$

$$2,800 =$$

قائم اثاثہ کھاتہ

(2)

کریٹ		ڈبیٹ	
تفصیلات	رقم (روپے)	تفصیلات	رقم (روپے)
نقد (زمین کی فروخت)	3,400	بر سابق باقی (b/d)	
باقی نیچ لائی گئی c/d	1,200	نقد (قائم اثاثوں کی خرید)	
4,600	4,600		

مجمع فرسودگی کھاتہ

کریٹ		ڈبیٹ	
تفصیلات	رقم (روپے)	تفصیلات	رقم
بر سابق باقی			1,200
نفع و نقصان			
1,200		1,200	

مثال 10

مندرجہ ذیل معلومات سے حساب داری معیار—3 (AS—3) کے مطابق بلا واسطہ اور بالواسطہ طریقے کا استعمال کرتے ہوئے بخارہ لمیٹر کا نقدروانی گوشوارہ بتائیے۔

ارجع 31 دسمبر 2011 کو تختہ توازن

(روپے'000)		اثاثہ جات
2010	2011	
25	200	باتھ میں اور بینک میں بنایا تم
135	670	قابل فروخت سیکورٹیز (ایک ماہ کی پختگی والی)
1,200	1,700	متفرق قرض دار
—	100	سودقابل وصول

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

1,950	900	مال نامے (ذخیرہ)
2,500	2,500	سرمایہ کاری
1,910	2,180	قائم اٹا شلاگت پر
(1,060)	(1,450)	مجموع فرسودگی
850	730	قائم اٹا شے (خاص)
6,660	6,800	کل اٹا شجات
		واجبات
1,890	150	متفرق قرض دار
100	230	سودا بل ادا
1,000	400	اکم چکس قبل ادا
1,040	1,100	طويل المدت قرض
4,030	1,890	کل اٹا شجات
		حصہ داروں کا فنڈ
1,250	1,500	حصہ سرمایہ
1,380	3,410	محفوظات
2,630	4,910	کل حصہ داروں کا فنڈ
<u>6,660</u>	<u>6,800</u>	کل واجبات حصہ داروں کا فنڈ

اختتم سال 31 مارچ 2011 کا نفع و نقصان گوشوارہ

(روپیہ'000)	فروخت
30,650	فروخت لاغت
<u>(26,000)</u>	خام نفع
4,650	فرسودگی
(450)	انتظائی و فرنگی اخراجات
(910)	سود اخراجات
(400)	

نقدروانی گوشوارہ

411

سود آمدنی	
منافع آمدنی	
ٹکیں اور غیر معمولی مدت سے قبل خالص نفع	
غیر معمولی مدت:	
زائد آفات تصفیہ سے بيمه حاصلات	
غیر معمولی مدت کے بعد خالص نفع	
اکم ٹکیں	
خالص نفع	
اضافی (ناضل) معلومات:	

- (a) 250 روپیے کی رقم حصہ سرمایہ جاری سے حاصل کی گئی اور 050 روپیے کی مزید رقم طویل المدت قرضوں سے حاصل ہوئی۔
- (b) سود خرچ 400 روپیے تھا جس میں سے 170 روپیے دوران مدت ادا کر دیے گئے۔ 100 روپیے سودا خراجات جو پچھلی مدت سے متصل تھا وہ بھی دوران مدت ادا کیے گئے۔
- (c) منافع کے 1,200 روپیے ادا کیے گئے۔
- (d) منافع کے حصول پر ٹکیں کے اندر پر کٹوتی کی گئی جو کہ 40 روپیے تھے (سال کے لیے 300 روپیے ٹکیں اخراجات میں جوڑا گیا)
- (e) دوران مدت ادارہ نے 350 روپیے کے قائم ناتا شے حاصل کیے۔ اس کی ادائیگی نظر کی گئی۔
- (f) پلانٹ کی اصل قیمت 80 روپیے اور مجموع فرسودگی 60 روپیے تھی جسے 20 روپیے میں فروخت کر دیا گیا۔
- (g) متفرق قرض داروں اور متفرق قرض خواہوں میں صرف فرد خخت اور ادھار خرید شامل ہیں۔

حل

نقدروانی گوشوارہ (بلا واسطہ طریقہ)

(روپیے'000)	عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی
30,150	گراہکوں سے نقد و صوبی
<u>(27,600)</u>	ملازمین اور رسکاروں کو نقد رادا ٹکی کی گئی

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

عمل کاری سے پیدا نہد اکمیکس ادا یگی	2,550
	<u>(860)</u>
غیر معمولی مدت سے قبل نقدروانی	1,690
	<u>140</u>
عمل کاری سرگرمیوں سے خالص نہد	1,830
اصل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی	
قائم اٹاؤں کی خرید	
آلات کی فروخت سے حاصلات	
سود موصول	
خالص نقد سرمایہ کاری سرگرمیوں سے سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقدروانی:	
حصہ سرمایہ اجر سے حاصلات	
طويل المدت قرضوں سے حاصلات	
طويل المدت قرضوں کی ادا یگی	
سود ادا یگی	
منافع ادا یگی	
سرمایہ فراہمی سرگرمیوں میں استعمال خالص نہد	
نقداً و نقد مرادفات میں خالص اضافہ	
مدت کی ابتدائیں نقداً و نقد مرادفات	
مدت کارکے اختتام پر نقداً و نقد مرادفات	
نقدروانی گوشارہ (با الواسطہ طریقہ)	
(روپیے'000)	
عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی	
ٹکیکس اور غیر معمولی مدت سے قبل خالص نفع	

3,390

تکلیف برائے:

450	فسودگی	+
(300)	سود سے آمد نی	-
(200)	منافع آمد نی	-
<u>400</u>	سود اخراجات	+
3,740	کاروباری اصل (ورکنگ کپیٹل) میں تبدیلی سے قبل تیلی نفع	
(500)	متفرق قرض داروں میں اضافہ	
1,050	سرمایہ کاروں میں کمی	
<u>(1,740)</u>	متفرق قرض خواہوں میں کمی	
2,550	عمل سے حاصل نقد	
<u>(860)</u>	اکٹمیکس ادا بیگی	
1,690	غیر معمولی مدارت سے قبل نقدروانی	
<u>140</u>	زیارت آفات کے تصفیہ سے حاصلات	
1,830	عمل کاری سرگرمیوں سے خالص نقد	
<u>(350)</u>	اصل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی	
20	قائم اثاث جات کی خرید	
200	آلات کی فروخت سے حاصلات	
<u>160</u>	سود موصول	
30	منافع موصول (خالص ثیڈی المیں)	
250	اصل کاری سرگرمیوں سے خالص نقد	
250	سرمایہ فراہمی سے نقدروانی	
<u>(180)</u>	حصہ سرمایہ کے اجر سے حاصلات	
<u>(270)</u>	طویل المدت قرضوں سے حاصلات	
<u>(1,200)</u>	طویل المدت قرضوں کی ادا بیگی	
<u>(1,150)</u>	سود کی ادا بیگی	
	منافع کی ادا بیگی	
	سرمایہ کاری سرگرمیوں میں مستعمل خالص نفع	

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

<u>710</u>	
160	
<u>870</u>	

نقداً و نقد مرادفات میں خالص اضافہ

مدت کی ابتدائیں نقداً و نقد مرادفات

مدت کے آخر میں نقداً و نقد مرادفات

بنیادی اشارے:

(1) نقداً و نقد مرادفات

نقداً و نقد مرادفات نقد فی دست، بینک میں بقا یا اور زر بازار آلات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نقد روانی گوشوارے میں شامل نقداً و نقد مرادفات میں مندرجہ ذیل تجھیہ تو ازان رقومات شامل ہوتی ہیں۔

(روپیے'000)

2005 2006

(روپیے) (روپیے)

25 200

135 670

160 870

نقدی دست اور بینک میں بقا یا

قليل المدت سرمایہ کاری

نقداً و نقد مرادفات

گاکوں سے نقد و صولی (2)

فروخت

جوڑا: سال کی ابتداء متفرق قرض دار

30,650

1,200

31,850

1,700

30,150

منہا کیا: سال کے آخر میں متفرق قرض دار

ملازمین اور رسکاروں کو نقداً و نقد مرادفات (3)

فروخت شدہ اشیا کی لامگت

انتظامی اور فروخت کاری اخراجات

26,000

910

26,910

1,890

2,790

29,700

جوڑا: سال کے ابتداء متفرق قرض دار

سال کے ابتداء مال نامے (انوئیٹریز)

نقدروانی گوشوارہ

415

		منہا کیا: سال کے آخر میں متفرق قرض دار
2,100	<u>1,950</u>	سال کی ابتداء میں مال نامے (انویٹریز)
<u>27,600</u>		
300		(4) اکم پکیس کی ادائیگی (بشمل حاصل منافع سے ٹی ڈی ایس)
		سال کے لیے اکم اخراجات (بشمل حاصل منافع سے ماخذ پکیس کی کٹوتی)
1,000		جوڑا: سال کی ابتداء میں اکم پکیس واجب
<u>1,300</u>		
<u>400</u>		منہا کیا: سال کے اختتام پر اکم پکیس واجب
900		
900 روپیے میں سے حاصل منافع کے ماخذ پر کٹوتی (ٹی ڈی ایس) (حوالے 40 روپیے ہے) اصل کاری سرگرمیوں سے اور باقی 860 روپیے کی رقم عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی میں شامل ہے۔		
1,040		(5) طویل المدت قرضوں کی ادائیگی
<u>250</u>		سال کی ابتداء میں طویل المدت قرض
1,290		جوڑا: سال کے دوران لیے گئے طویل المدت قرض
<u>1,110</u>		منہا کیا: سال کے اختتام پر طویل المدت قرض
<u>180</u>		
400		(6) سود کی ادائیگی
<u>100</u>		سال کے لیے سود اخراجات
500		جوڑا: سال کی ابتداء میں قبل ادا سود
<u>230</u>		منہا کیا: سال کے اختتام پر قابل ادا سود
<u>270</u>		

باب میں متعارف کرائی گئیں اصطلاحات

Cash Equivalent	-2	نقد رادف	-1	نقد
Cash Outflows	-4	نقد بیرون بھاؤ (روانی)	-3	نقد اندر و خارج روانی
Cash Flow Statement	-6	نقدروانی گوشوارہ	-5	غیر نقد

Investing Activities	عمل کاری نفع	8 - Operating Activities	عمل کاری سرگرمیاں
Accounting Standard	10 - Financing Activities	حساب داری معیار	اصل کاری سرگرمیاں
			11 - غیر معمولی مد

خلاصہ

نقدروانی گوشوارے: نقدروانی گوشوارے کو کسی کاروباری ادارے کی سیالیت کو دریافت کرنے کے لیے مالی حالت میں تبدیلیوں کے گوشوارے سے بہتر خیال کیا جاتا ہے۔ دی اُسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ کاؤنٹنٹ آف ائٹیا کے ذریعے جاری کردہ حساب داری معیار—3 (اے ایس—3) کے مطابق ہندوستانی کاروباری اداروں کو نقدروانی گوشوارہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ نقدروانی کو عمل کاری (آپرینٹنگ) اصل کاری (انوشنگ) اور سرمایہ فراہمی (فائننسنگ) سرگرمیوں کی روانی کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ گوشوارہ استعمال کرنے والوں کو کسی کاروباری ادارے کے ذریعے پیدا کی گئی رقم کی دریافت اور نقدروانی کے ایقان (تحقیق) میں مدد کرتا ہے۔

مشقی سوالات

منظر جوابی سوالات

1. نقدروانی گوشوارہ کے کہتے ہیں؟
2. نقدروانی گوشوارہ تیار کرتے وقت (حساب داری معیار-3) تصحیح شدہ کے مطابق مختلف سرگرمیوں کی درجہ بندی (تقسیم) کس طرح کی جاتی ہے؟
3. نقدروانی گوشوارے کے استعمال بیان کیجیے؟
4. نقدروانی گوشوارہ تیار کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟
5. اصطلاحات 'نقد مرادفات' اور 'نقدروانی' کی وضاحت کیجیے۔
6. بلا واسطہ اور بالواسطہ طریقے کا استعمال کرتے ہوئے عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی کا ایک خاکہ تیار کیجیے؟
7. آپ عمل کاری سرگرمیوں کا مطلب جانتے ہیں۔ وضاحت کیجیے کہ مندرجہ ذیل اقسام کے کاروباری اداروں کے لیے عمل کاری سرگرمیوں میں کیا متعین ہوگا؟
 - (i) ہوٹل
 - (ii) فلم سماز ادارہ

(iii) مالیاتی ادارہ

(iv) میڈیا کاروبار

(v) اسٹیل مصنوعاتی اکاڈمی

(vi) سافٹ ویر کاروباری اکاڈمی

- 8۔ ایک کاروبار کی نوعیت / قسم اسے بحثیت مجموعی اس زمرے میں تبدیل کر سکتی ہے جس میں ایک خصوصی سرگرمی کی درجہ بندی کی جاسکے۔ کیا آپ اس قول سے متفق ہیں؟ مشاون کے ذریعے اپنے جواب کی وضاحت کیجیے۔

طویل جوابی سوالات

1۔ نقدروانی گوشوارہ تیار کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔

2۔ عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی دریافت کرنے کے بلا واسطہ اور بالواسطہ طریقے بیان کیجیے۔

3۔ اصل کاری سرگرمیوں سے نقداندرون روانی اور بیرون بہاؤ کی وضاحت کیجیے۔

4۔ سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقدروانی اندرون روانی اور بیرون بہاؤ کی وضاحت کیجیے۔

عددی (Numerical) سوالات

- 1۔ اختتم سال 31 مارچ 2011 کو آئندہ میڈیڈ کی خالص آمدی 5,00,000 روپیے تھی۔ دوران سال فرسودگی 2,00,000 روپیے رہی۔ اسی کے ساتھ اس سال 50,000 روپیے کے اضافہ جات فروخت کیے گئے جن کو نفع و نقصان کھاتے کے جمع (کریڈٹ) سمت میں ڈالا گیا۔ دوران سال قبل وصول ہنڑیوں میں 40,000 روپیے کا اور قابل ادا ہنڑیوں میں بھی 60,000 روپیے کا اضافہ ہوا۔ بالواسطہ طریقے کا استعمال کرتے ہوئے عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی شمار کیجیے۔
- 2۔ حسب ذیل معلومات سے مال نامے (انویٹری) کے لیے نقدروانی تیار کیجیے۔

(روپیے)	ابتدائیں مال نامہ (ذخیرہ)
40,000	خریداریاں
1,60,000	آخر میں مال نامہ (ذخیرہ)
38,000	ابتدائیں مال نامہ قرض خواہ
14,000	آخر میں مال نامہ قرض خواہ
14,500	آخر میں مال، مال نامہ قرض خواہ

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

[جواب 1,59,500 روپیے]

-3 مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک لین دین کے لیے حاصل نقدروانی کا حساب لگائیے اور نقدروانی کی نوعیت بتائیے جیسے عمل کاری، اصل کاری، سرمایہ فراہمی۔

(a) 2,50,000 روپیے میں مشینی کو 20% دے کر حاصل کیا اور باقی ادا بیک کے لیے باٹھ جاری کر دیا گیا۔

(b) انفورماٹیک کے حصہ حاصل کرنے کے لیے 2,50,000 روپیے کی ادا بیک اور حصول کے بعد 50,000 روپیے کا منافع حاصل کیا۔

(c) 2,00,000 روپیے کی اصل قیمت والی مشین کو 60,000 روپیے کی مجموع فرسودگی کے ساتھ 60,000 روپیے میں فروخت کیا گیا۔

[جواب 50,000 روپیے اصل کاری بھاؤ (بیرون روانی) 12,00,000 اصل کاری روانی (بیرون روانی) : 60,000 روپیے اصل کاری روانی (اندر رون روانی)]

-4 مندرجہ ذیل جنمالمیٹڈ کا نفع و نقصان کھاتہ ہے۔

جملہ المیٹڈ

نفع و نقصان اختتام سال 31 مارچ 2007

(روپیے)	(روپیے)	فرودخت
10,00,000		فرودخت کیے گئے مال کی لاگت:
	2,50,000	افتناحی اسٹاک
	<u>5,00,000</u>	خریداریاں
	7,50,000	
<u>5,50,000</u>	<u>2,00,000</u>	منہا کیا: اختتامی اسٹاک
4,50,000		خام نفع
<u>3,00,000</u>		تعیلی (آپرینگ) اخراجات

خاص نفع

اضافی معلومات:

1,50,000

(i) دوران سال کاروباری قرض داروں میں 30,000 روپیے کی کمی۔

(ii) دوران سال پیش ادائی (پری پیڈ) اخراجات میں 5,000 روپیے کا اضافہ۔

(iii) دوران سال کاروباری قرض داروں میں 15,000 روپیے کی کمی۔

(iv) دوران سال 3,000 روپیے کے بقایا خرچوں میں اضافہ۔

(v) عمل کاری اخراجات بیشول فرسودگی 25,000 روپیے۔

بالواسطہ طریقے کے ذریعے اختتام سال 31 مارچ 2007 کے لیے عمل کاری سے دستیاب خاص نقد کا حساب لگائیے۔

[جواب عمل سے دستیاب نقد 2,18,000 روپیے]

5۔ مندرجہ ذیل اعداد و شمار کے ذریعے انعام (آپریشنز) سے نقد کا حساب لگائیں۔

(i) 2005-06 کے نفع 2,000 روپیے فرسودگی منہما کرنے کے بعد کل 10,000 روپیے ہے۔

(ii) اختتام سال 2010 اور 2011 میں کاروبار کے روایاٹی مندرجہ ذیل ہیں

2011 مارچ 31	2010 مارچ 31	
(روپیے)	(روپیے)	
12,000	10,000	قرض دار
1,200	1,000	اہتمام برائے مشکوک قرض
3,000	4,000	قابل وصول ہندیاں
6,000	5,000	قابل ادا ہندیاں
9,000	8,000	قرض خواہ
8,000	5,000	مال نامہ (ذخیرہ)
12,000	10,000	قلیل المدت سرمایہ کاری
1,500	1,000	بقایا اخراجات
1,000	2,000	پیش ادائی اخراجات
4,000	3,000	حاصل (accrued) آمدنی
1,000	2,000	پیشگی موصول آمدنی

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

[جواب افعال (آپریشنز) سے نقد 7,700 روپیے]
نقد کھاتے کے خلاصہ سے نقد روانی گوشوارہ تیار کیجیے۔

6۔ بھارت گیس لمبینڈ کی مندرجہ ذیل تفصیلات سے سرمایہ کاری سرگرمیوں سے نقد روانی کا حساب لگائیجے۔ اس کے ساتھی ہی کھاتہ تیار کرتے ہوئے صاف طور پر بنیادی اشارے بھی دیجیے۔

کو بھارت گیس لمبینڈ کا تختہ توازن

واجہات	2010 رقم (روپیے)	2011 رقم (روپیے)	2010 رقم (روپیے)	2011 رقم (روپیے)
ساکھ (گذول)	1,00,000	3,00,000		
پینٹ	2,80,000	1,60,000		
مشینری	10,20,000	12,40,000		
10% طویل المدت سرمایہ کاری	60,000	1,60,000		
زمیں میں سرمایہ کاری	1,00,000	1,00,000		
امریکس لمبینڈ کے حصہ	1,00,000	1,00,000		

اضافی معلومات:

- (a) 40,000 روپیے کے پینٹ کو قلم زد کیا گیا اور کچھ پینٹ 20,000 روپیے کی نفع پر فروخت کیے گئے۔
- (b) 1,40,000 روپیے کی لاگت کی ایک مشین (جس کی فرسودگی 60,000 روپیے دی گئی ہے) کو 50,000 روپیے میں فروخت کیا گیا۔ دوران سال فرسودگی 1,40,000 روپیے چارج کی گئی۔
- (c) 31 مارچ 2011 کو 1,80,000 روپیے کے 10% سرماۓ خریدے گئے اور کچھ سرمائے 20,000 روپیے کے نفع پر فروخت کیے گئے۔ 31 مارچ 2007 کو ان سرمایہ کاریوں پر سود حاصل کیا گیا۔
- (d) حصہ پر امریکس لمبینڈ نے 10% منافع ادا کیا۔
- (e) ایک قطعہ زمین سرمایہ کاری کے مقصد سے خریدا گیا اور کاروباری استعمال کے لیے کرائے پر دے کر 30,000 روپیے وصول ہوئے۔

[جواب 5,24,200 روپیے]

7۔ مندرجہ ذیل مohn لمبینڈ کے تختہ توازن سے نقد روانی گوشوارہ تیار کیجیے۔

کوراجیشور لمبینڈ کا تجھیہ توازن

2011 روپے	2010 روپے	اٹاشجات	2011 روپے	2010 روپے	واجبات
6,00,000	4,00,000	قائم اٹاشہ	3,00,000	2,00,000	اکیوٹی حصہ سرمایہ
1,50,000	1,30,000	اسٹاک	2,00,000	1,60,000	نفع و نقصان
60,000	1,00,000	قرض دار	80,000	1,00,000	بینک قرض
30,000	20,000	قابل وصول ہنڈیاں	1,00,000	80,000	مجمع فرسودگی
30,000	90,000	بینک	1,20,000	1,40,000	قرض خواہ
			70,000	60,000	محوزہ منافع
8,70,000	7,40,000		8,70,000	7,40,000	

اضافی معلومات:

مشین کی لاگت 80,000 روپے ہے اور اس پر مجمع فرسودگی 50,000 روپے تھی اور 20,000 روپے میں فرخخت کی گئی۔

[جواب: عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی 1,80,000 روپے]

اصل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی (2,60,000) روپے

سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقدروانی 20,000 روپے]

8۔ ٹائیگر سپر لمبینڈ کے تجھیہ توازن سے نقدروانی گوشوارہ تیار کیجیے۔

تجھیہ توازن

2011 روپے	2010 روپے	اٹاشجات	2011 روپے	2010 روپے	واجبات
18,800	24,000	کاروباری سماکھ	1,20,000	80,000	اکیوٹی حصہ سرمایہ
20,000	40,000	زمین و عمارت	20,000	40,000	10% ترجیحی حصہ سرمایہ
76,400	36,000	پلانٹ	12,000	8,000	عام محفوظہ
14,000	4,000	سرمایہ کاری	10,800	7,200	نفع و نقصان کھاتہ

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

43,200	30,000	قرض دار	15,600	11,200	مجوزہ منافع
31,200	34,000	لٹاک	21,200	14,000	قابل اداہندیاں
11,200	6,800	نقد	2,400	3,200	بقایا اخراجات
			12,800	11,200	اهتمام برائے بیکس
2,14,800	1,74,800		2,14,800	1,74,800	

اضافی معلومات:

رووال سال میں زمین و عمارت پر فرسودگی بار 20,000 روپیے اور پلانٹ پر 10,000 روپیے ہے۔

[جواب: عمل کاری سرگرمیوں سے نقد روانی 34,800 روپیے]

عمل کاری سرگرمیوں سے نقد روانی (50,400) روپیے

سرمایفراہی سرگرمیوں سے نقد روانی 20,000 روپیے

9۔ مندرجہ ذیل اطلاع کی بنیاد پر نقد روانی گوشوارہ تیار کیجیے۔

تحقیقہ توازن

2011 روپیے	2010 روپیے	اٹاشہ جات	2011 روپیے	2010 روپیے	واجبات
4,00,000	3,00,000	نقد/بینک	7,00,000	5,00,000	اکیوٹی حصہ سرمایہ
6,00,000	4,00,000	متفرق قرض دار	4,00,000	6,00,000	ڈپچرز 8%
6,00,000	5,00,000	اسٹاک	5,00,000	3,00,000	نفع و نقصان کھاتہ
1,70,000	2,50,000	کاروباری ساکھ	9,00,000	6,00,000	قرض خواہ
30,000	50,000	ڈپچرز پر بٹھے			
7,00,000	5,00,000	پلانٹ	25,00,000	20,00,000	
25,00,000	20,00,000				

اضافی معلومات:

پلانٹ (کارخانہ) پر فرسودگی بار 80,000 روپیے

[جواب: عمل کاری سرگرمیوں سے نقداندرون روانی] اصل کاری سرگرمیوں سے نقداندرون روانی
 اصل کاری سرگرمیوں سے نقداندرون روانی سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقداندرون روانی صفر روپیے
 مندرجذیل جانکاری سے یوگینالمیڈ کے لیے نقدروانی گوشوارہ تیار کیجیے۔ - 10

تحقیقہ توازن

2011 (روپیے)	2010 (روپیے)	اٹاشہ جات	2011 (روپیے)	2010 (روپیے)	واجبات
—	45,000	بینک	3,00,000	2,00,000	اکیوٹی حصہ سرمایہ
—	5,000	نقد	1,00,000	—	ترجیحی حصہ سرمایہ
1,70,000	1,00,000	اسٹاک	2,00,000	1,00,000	فعل و نقصان کھاڑہ
1,00,000	50,000	قابل وصول ہندیاں	—	2,00,000	قرض
7,00,000	4,00,000	قائم اٹاشہ	50,000	30,000	اہتمام برائے بیکس
			70,000	50,000	قابل ادا ہندیاں
			1,00,000	—	بینک اور ڈرائافت
			1,50,000	20,000	رامل سے قرض
9,70,000	6,00,000		9,70,000	6,00,000	

اضافی معلومات:

50,000 روپیے فرسودگی کے طور پر چارج کرنے کے بعد خالص نفع 1,50,000 روپیے ہے۔ حصہ پر منافع 50,000 روپیے ادا کیا گیا۔ دوران سال اہتمام بیکس کی رقم 60,000 روپیے تھی۔

[جواب: عمل کاری سرگرمیوں سے نقد] اصل کاری سرگرمیوں سے نقد
 اصل کاری سرگرمیوں سے نقد سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقد
 مندرجذیل گریمالمیڈ کا مالیاتی گوشوارہ ہے۔ اس کی مدد سے نقدروانی گوشوارہ تیار کیجیے۔ - 11

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

31 دسمبر 2011 کو تجھے توزان

2011 روپیے	2010 روپیے	اٹاچجات	2011 روپیے	2010 روپیے	واجبات
3,64,000	2,00,000	پلانٹ اور مشینری اسٹاک قرض دار بیک پیش ادائی اخراجات	3,00,000	2,00,000	اکیوٹی حصہ سرمایہ
1,60,000	60,000		1,40,000	80,000	ترجیحی حصہ سرمایہ
80,000	20,000		1,56,000	56,000	قرض خواہ
28,000	80,000		12,000	4,000	اہتمام برائے ٹکس
16,000	8,000		40,000	28,000	نفع و نقصان کھاتہ
6,48,000	3,68,000		6,48,000	3,68,000	

نفع و نقصان کھاتہ اختتام سال 31 دسمبر 2011 کو

وصولیابیان ادائیگیاں	رقم (روپیے)	وصولیابیان ادائیگیاں	رقم (روپیے)	وصولیابیان ادائیگیاں
افتتاحی اسٹاک	60,000	فروخت	5,00,000	
خریداریاں	4,92,000	انتتامی اسٹاک	1,60,000	
نام نفع- باقی آگے لے جایا گیا d	6,60,000			c/d
تنخواہ	1,08,000	خام نفع- بر سابق باقی	1,08,000	
فرسودگی	44,000			
اہتمام برائے ٹکس	32,000			
خاص نفع باقی آگے c/d	16,000			
	1,08,000			
منافع	28,000	b/d	4,000	
باقی آگے / لے جایا گیا d	16,000	خاص نفع b/d	40,000	
	44,000		44,000	

[جواب: عمل کاری سرگرمیوں سے نقدیر و نروانی (مستعمل)]
 اصل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی
 سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقدروانی
 مندرجہ ذیل تجھے تو ازن کمپیوٹر انڈیا میڈیا ہے۔

(لاکھوں میں)

2011 (روپے)	2010 (روپے)	اثاثہ جات	2011 (روپے)	2010 (روپے)	واجبات
40,000	41,000	قائم اثاثہ	50,000	40,000	اکیوٹی حصہ سرمایہ
15,000	11,000	منہا کیا: اہتمام برائے فرسودگی	1,200	1,000	نفع و نقصان کھاتہ
25,000	30,000				عام محفوظ
24,000	20,000	قرض دار	2,500	2,000	
35,000	30,000	اشاک	6,500	6,000	10% ڈپچر
500	300	پیش ادائی اخراجات	11,000	12,000	متفرق قرض خواہ
3,500	1,200	نقد	42,000	3,000	اہتمام برائے ٹکس
			5,800	5,000	محوزہ منافع
			6,800	12,500	بینک اور ڈریفٹ
88,000	81,500		88,000	81,500	

اضافی معلومات:

ڈپچر پر 600 روپے سودا دا کیا گیا
 [جواب: عمل کاری سرگرمیوں سے خالص نقد]
 اصل کاری سرگرمیوں سے خالص نقد
 سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے خالص نقد

پروجیکٹ کا کام

- درج فہرست تین کمپنیوں (فرض کر لیجیے اور نہ لے، انفوس ٹسکو وغیرہ) کی سالانہ رپورٹ میں دیے گئے نقدروانی گوشواروں کو پڑھیے اور تجزیہ کر کے دریافت کیجیے۔

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

- (i) عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی کا حساب لگانے کے لیے کون سا طریقہ (بلا واسطہ یا با واسطہ) استعمال کیا گیا ہے۔
- (ii) غیر معمولی مدت جیسے منافع ٹیکس، قائم ائمہ جات کی فروخت پر، نفع و نقصان غیر معمولی مدت پر فرسودگی کا علاج (عمل)
- (iii) کیا تمام کمپنیوں نے نقدروانی گوشوارہ کے لیے ایک جیسا خاکہ اپنایا ہے یا مختلف؟
- (iv) آپ کے خیال میں کیا کمپنیاں اپنی سالانہ رپورٹ میں نقدروانی گوشواروں کو مناسب طور پر اجاگر کرتی ہیں؟
- 2- ہر ایک کمپنی کو لازمی طور پر نقدروانی گوشوارہ تیار اور پیش کرنا ہوتا ہے۔ ”کلاس روم میں اس قول پر بحث کیجیے۔
- 3- آپ نے میڈرڈل میڈیڈ کے پچھلے تین برسوں کے نقدروانی گوشواروں کا تجزیہ کیا ہے اور پایا کہ۔
- (i) سالہ سال نقداً و نقد مرادفات میں اضافہ ہوا ہے۔
- (ii) تاہم عمل کاری سرگرمیوں سے خالص نقدروانی بروقت منفی رہی۔ مندرجہ بالا صورت حال کے لیے کیا ممکنہ وجہات ہو سکتی ہیں؟ کمپنی کی تقاضاً کا رکورڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
- جوابات: اپنی معلومات کی جانچ کیجیے**
- اپنی معلومات کی جانچ کیجیے—I**
- جوابات: a) عمل کاری سرگرمیاں 3, 6, 13, 10, 7, 27, 24, 23, 20, 19, 15, 12, 11, 8, 5, 29, 22, 21, 17, 16, 12, 11, 8, 4, 28, 26, 25, 18, 14, 9, 2, 33, 32, 31, 30
b) اصل کاری سرگرمیاں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
c) سرمایہ فراہمی سرگرمیاں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
d) نقد مرادفات: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
- اپنی معلومات کی جانچ کیجیے—II**
- | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|--------|----|----|---|----------|
| کم کیا | -4 | -3 | -2 | 40,000 | -1 | 1 | - | کم کیا |
| جوڑ دیا | -5 | -7 | -7 | - | - | - | - | جوڑ دیا |
| - این سی | +5 | +4 | +3 | - | -2 | -1 | - | - این سی |
| +12 | -11 | -10 | -9 | - | -8 | - | - | - این سی |

ضمہ 1

گریسم اند سٹریز میڈیم

اختتام سال 31 مارچ 2000 کے لیے نقدروانی گوشوارہ

(روپیے کروڑوں میں)

روال سال سابق سال

A۔ عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی:

(a) ٹکس اور مستحق مرات سے قبل خالص نفع

تطبیق برائے:

فسودگی

سودا خراجات

سود سے آمدنی

منافع سے آمدنی

برائے علاحدگی (ڈسپوزل) رکھے گئے اثاثوں کی قیمت میں لکھنا

قائم اثاثوں کی فروخت پر نفع (خالص)

طویل المدت سرمایکاری کی فروخت نفع (خالص)

روال سرمایکاری کی فروخت پر نفع (خالص)

کاروباری اصل کی تبدیلی سے قبل تعیینی نفع

(b)

تطبیق برائے:

کاروباری اور دیگر صوبیاں

مال نامے (ذخیرہ) انویٹریز

علاحدگی کے لیے رکھے گئے اثاثے جات

کاروباری ادائیگیاں

انعال سے پیدا اند

(c)

1361.36 1201.90

— —

284.57 291.64

138.76 97.32

(75.38) (29.48)

(39.37) (38.04)

7.00 —

(2.25) 3.99

(24.90) (62.57)

(3.37) (7.27)

1646.42 1457.49

(78.33) 116.66

(219.13) (72.14)

1.84 0.97

90.96 159.70

1441.76 1662.68

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

(391.30)	(380.42)	بلا واسطہ نگیں ادا کیا (خاص)
1050.46	1282.26	غیر معمولی مادت سے قل عمل کاری سرگرمیوں سے نقد
1050.46	1282.26	عمل کاری سرگرمیوں سے خالص نقد
		اصل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی
(301.75)	(408.80)	قائم اثاثوں کی خریداری
19.71	9.29	قائم اثاثوں کی فروخت
(75.41)	(502.03)	سرمایہ کاری کی خریداری
669.49	72.19	سرمایہ کاری فروخت
(1294.14)	(119.31)	مشترک کاروبار اور معاون و دیگر میں سرمایہ کاری / پیشگیاں
74.29	29.11	موصول سود
<u>39.37</u>	<u>38.04</u>	موصول منافع
(868.44)	(881.51)	سرمایہ فراہمی سے (مستعمل) خالص نقد
—	—	سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقدروانی
326.40	128.25	قرضوں سے حاصلات
(354.13)	(181.58)	قرضوں کی ادائیگی
(150.11)	(112.71)	سودا دیکیا
(128.19)	(145.25)	منافع ادا کیا
<u>(16.77)</u>	<u>(20.58)</u>	کاپوریٹ منافع نگیں
(322.80)	(331.87)	سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے (مستعمل) نقدروانی
140.78	68.88	نقد اور نقد مرادفات میں خالص کمی / بیشی
227.48	86.70	ابتداء سال میں نقد اور نقد مرادفات
86.70	155.58	اختتام سال پر نقد اور نقد مرادفات (نقد اور نقد مرادفات نقد اور بینک بیلنس کی علامت ہیں)

نوٹ:

سابقہ رسول کے اعداد و شمار کی حسب ضرورت گروہ بندی کی گئی ہے۔

- 1

ضمہ 2

بیکل فیول سسٹم لمبیڈ

اختتام سال 31 مارچ 2000 کے لیے نقدروانی گوشوارہ

برائے اختتام سال	برائے اختتام سال	
31.03.2005	31.03.2006	
(روپیہ)		
359,488	241,438	A عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی: کیکس اور غیر معمولی مرات سے قتل خالص نفع تبلیغ برائے:
3,330	12,826	متفرق اخراجات قلم زد (بڑھ کھاتے میں)
134,530	129,948	فرسودگی / انشا جات کا خاتمه
(31,85)	(2,285)	سود سے آمنی
(12,590)	(12,910)	منافع سے آمنی
4634	59,968	سود خرچ
486,207	428,985	کاروباری اصل میں تبدیلی سے قبل تعمیل (آپرینگ) نفع تبلیغ برائے:
44,225	30,912	قرض دار
(53,446)	10,620	مال نامہ (انوئیٹریز)
(44,039)	30,051	قرضے اور پیشگیاں
(76,138)	26,337	کاروباری ادا بیگیاں
323	671	قبل مدت تبلیغ
357,132	527,576	انفال سے پیدا نہ
(92,962)	(90,594)	اکمیکس - ادا کیا

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

264,170

436,982

عمل کاری سرگرمیوں سے خالص نقد - "a"

		اصل کاری سرگرمیوں سے نقد روانی	B
(221,417)	(85,586)	قائم اثاثوں کی خریداری	
(71,133)	(71,238)	مصنوع ٹیکنیق و فروخت اخراجات	
146,329	(46,346)	کاروباری سرمایہ	
4,091	3,154	قائم اثاثوں کی فروخت	
4,7,50	281,120	سرمایہ کاری فروخت	
(35,000)	(1,068,690)	سرمایہ کاریوں کی خریداری	
2,837	3,355	سود موصول ہوا	
12,590	12,909	منافع موصول ہوا	
<u>(156,953)</u>	<u>(971,322)</u>	عمل کاری سرگرمیوں سے خالص نقد	
		سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقد روانی	C
(44,251)	(686,633)	قرضوں / قرضوں کی مکرada یا لگی سے حاصلات	
(62,777)	(79,225)	منافع ادا کیا شمول منافع پر ٹکس	
(4,294)	(61,456)	سودادا کیا	
<u>111,322</u>	<u>545,952</u>	سرمایہ فراہمی سرگرمیوں میں مستعمل خالص نقد "c"	
(4,105)	11,612	نقد اور نقد مرادفات میں خالص اضافہ "(a+b+c)"	
67,055	62,950	نقد اور نقد مرادفات ابتدائی میں	
62,950	74,562	نقد اور نقد مرادفات اختتامی سال پر	

ضمیمه 3

اسٹر لائٹ آپ پیکل میکنا لو جیز لمیڈیڈ

نقدروانی گوشوارہ برائے اختتام سال 31 مارچ 2006

2005	2006	
(روپیے ملین میں)	(روپیے ملین میں)	
		عمل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی A
102.20	407.66	ٹکمیں کے بعد خاص نفع مطابق نفع نقصان کھاتہ
<u>0.32</u>	<u>(26.10)</u>	تطبیق برائے ٹکمیں
102.52	381.56	
		تطبیق برائے:
266.76	289.92	- فرسودگی
0.41	—	- سرمایہ کاری کی فروخت پر نقصان
104.12	161.36	- سودا خراجات (خاص)
2.52	(1.49)	- اٹاٹوں کی فروخت پر (نفع) / نقصان
—	146.60	- ملتوی فروخت ٹکمیں ذمے داری کی
16.80	—	- پیش ادا یگی پر خاص (نفع)
	303.19	- اہتمام اور قلم زدگی (بند کھاتہ)
<u>49313</u>	<u>684.75</u>	
		کاروباری اصل میں تبدیلی سے قبل تعیینی نفع
(777.17)	(661.23)	تطبیق برائے:
		- کاروبار اور دیگر وصولیا ہیوں میں کی / بیش

کھاتہ داری: کمپنی کھاتے اور مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ

(83.02)	(85.14)	مال ناموں میں کی/بیشی
<u>941.55</u>	<u>(907.51)</u>	کاروبار ادا بیگیوں میں کی/بیشی
574.49	222.76	انعال سے پیدا اقتدار
13.68	(35.25)	بلاؤ اسٹیکس (ادا/ ماخذ پر کٹوتی) / واپسی وصول
<u>588.17</u>	<u>(258.01)</u>	عمل کاری سرگرمیوں سے خالص نقدروانی

اصل کاری سرگرمیوں سے نقدروانی

(67.81)	(48.95)	قائم اثاثوں کی خریداری شامل مستعمل کاروباری سرمایہ
14.48	3.21	قائم اثاثوں کی فروخت سے حاصلات
—	(0.05)	خریداری/ سرمایہ کاری کی فروخت
—	(491.64)	بینک میں میعادی جمع میں سرمایہ کاری
—	(24.95)	زیر تجویز الائمنٹ کا زرد غواست ادا کیا
19.65	15.99	معاون کمپنیوں سے سود حاصل ہوا
(95.58)	(100.83)	معاون کمپنیوں سے قرض
<u>129.26</u>	<u>647.22</u>	اصل کاری سرگرمیوں سے خالص نقدروانی

سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے نقدروانی

(89.92)	1,175.73	محفوظ قرضوں (خالص) کی ادائیگیاں/ حاصلات
—	336.00	ترجیحی اکیڈمی حصہ وارثت سے حاصلات/ ادائیگیاں
(120.71)	(117.62)	غیر محفوظ قرض (خالص) حاصلات (ادائیگیاں)
(123.77)	(163.43)	سود ادا بیگ
(0.09)	(0.03)	لاوارث منافع کی ادائیگی
<u>334.49</u>	<u>1,230.65</u>	سرمایہ فراہمی سرگرمیوں سے خالص نقدروانی
124.42	325.42	نقد اور نقد مرادفات میں خالص اضافہ
13.24	137.66	ابتدائے سال میں نقد اور نقد مرادف
137.66	463.08	اختتام سال نقد اور نقد مرادف

B

C